

دلچسپ علمی واقعات و مشاہدات

(از ۱۹۳۳ء تا ۲۰۰۷ء)



دوست محمد شاہد

دلچسپ علمی واقعات و مشاہدات

(از ۱۹۳۳ء تا ۲۰۰۷ء)

دوست محمد شاہد

عنوانات

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | حرفِ آغاز |
| 9 | فصل اول (اللہ جلّ شانہ، قرآن مجید، محمد مصطفیٰ ﷺ، خانہ کعبہ، امہات المؤمنینؓ) |
| 35 | فصل دوم (آئمہ اہل بیتؓ، صحابہ نبویؓ، خلفاء اور مجددیت) |
| 42 | فصل سوم (سیدنا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام) |
| 52 | فصل چہارم (حضرت اقدس مسیح موعود) |
| 95 | فصل پنجم (دس ملکی و غیر ملکی شخصیات سے ملاقات) |
| 114 | کلمہ آخر |

پیشکش کنندہ: مولانا محمد رفیع صاحب، مدرسہ اسلامیہ، لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

حرفِ آغاز

اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کو ”خیر الامم“ کا تاج کیوں عطا فرمایا ہے؟ اس کا جواب خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے مبارک الفاظ میں یہ ہے کہ ”مَنْ اسَلَّمَ عَلٰی يَدِيهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ“ (جامع الصغیر للسيوطی جلد ۲ صفحہ ۱۶۴) جس شخص کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہو اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ حضرت مسیح موعود سورۃ الرعد کی آیت ۱۸ ”وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ“ کی نہایت پُرکف تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

”جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کاموں

کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔“

(الحکم قادیان ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۳)

تحریک احمدیت کا قیام وحی ربانی سے ہوا جس کا بنیادی مقصد دعوت الی اللہ ہے۔ یعنی زندہ خدا کی منادی!! سیدنا محمد عربی ﷺ نے پیشگوئی فرمائی کہ:

”اذا عظمت امتی الدنيا نزعتم عنه هيبه الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي“ (جامع الصغیر للسيوطی جلد ۱ صفحہ ۳۰) یعنی جب میری امت دنیا کو عظمت دینے لگے گی تو ہیبت اسلام اس کے دلوں سے نکل جائے گی اور جب (تبلیغ یعنی) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔

اس حدیث سے بالبداہت ثابت ہے کہ آج صرف جماعت احمدیہ ہی کو جناب الہی نے ابلاغ حق کا روحانی پرچم عطا فرمایا ہے کیونکہ باقی سب مسلمان فرقے وحی کی برکت سے یکسر تہی دست ہو چکے ہیں بلکہ اس کے تسلسل سے قطعی طور پر انکاری ہیں۔ نقشہ عالم میں صرف احمدی ہی ہیں جو زندہ مذہب، زندہ رسول اور زندہ قرآن پر علی وجہ البصیرت ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود

نے دنیا بھر میں ہمیشہ یہ منادی فرمائی:

”اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا کلام

کر رہا ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم صفحہ ۶۲، اشاعت ۲۷ جنوری ۱۸۹۷ء)

مسح الزماں کی قوتِ قدسیہ کا یہ اعجاز ہے کہ قادیان کی فضاؤں میں سانس لیتے ہی اشاعتِ حق کا بے پناہ جذبہ، جوش اور ولولہ ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سید میر محمد اسماعیل صاحب نے ۱۹۲۰ء میں ”حالات قادیان دارالامان“ کے عنوان سے ایک اثر انگیز نظم کہی تھی جس کے دو شعر یہ تھے کہ:

دیکھنا یورپ میں جا گونجی کہاں
واہ کیا کہنے اذان قادیاں
مرجبا تنخیر مغرب کے لیے
نکلے ہیں کچھ خالدان قادیاں

شاعر احمدیت حضرت ثاقب زریوی مرحوم نے مرکز احمدیت کی شان میں ترانہ لکھا:

اے قادیاں دارالامان
اونچا رہے تیرا نشان
عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن
اخلاق اور ایمان زا روشن بہاروں کے وطن
اے مصطفیٰ کے دیں کے سچے جاں نثاروں کے وطن
تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان

اے قادیاں دارالامان
اونچا رہے تیرا نشان

ہر اک زباں پر آج ہے بے تاب افسانہ ترا
 ہے مرجعِ اقوامِ عالم آج سے خانہ ترا
 فرزانگی پر چھا گیا اٹھا جو دیوانہ ترا
 ہر دوڑ میں ، ہر راہ میں ، آگے ہے تیرا نوجواں

اے قادیاں دارالاماں!

اونچا رہے تیرا نشان

(”دور خسروی“ قادیان دسمبر ۱۹۳۵ء)

میرے پیارے مولیٰ کریم کے اس ذرہ ناچیز اور لاشیٰ محض پر بے شمار افضال ہیں ۔

اگر ہر بال ہو جاوے سنخور
 تو پھر بھی شکر ہے امکاں سے باہر

منجملہ ان عنایات کے یہ بھی ہے کہ اُس نے مسلسل گیارہ برس (۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۷ء تک)

اس خدا نما ہستی سے (جس کی ایک ایک اینٹ شعا ر اللہ میں سے ہے) براہِ راست فیضیاب ہونے کی سعادت بخشی۔ اس کتاب کی زینت میرے چشم دید اور گوش شنید واقعات یورپ سے جنوبی ایشیا تک ممالک پر محیط ہیں جو بلا مبالغہ دیار حبیب قادیان کی اسی مقناطیسی تاثیرات کا کرشمہ ہیں جس کے پاکیزہ ماحول اور روحانیت کی برقی لہریں مردہ دلوں میں اشاعتِ حق کی زندہ روح پھونک دیتی ہیں۔

اس مختصر مقالہ سے مقصود احمدیت کی نئی اور پُر جوش نسل کی خدمت میں صرف بنیادی معلومات پیش کرنا ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے طرزِ تحریر اور اسلوب کی رہنمائی میں حشو و زوائد سے حتی الوسع اجتناب کیا گیا ہے اور جملہ واقعات مختلف اہم مباحث کے زیر عنوان درج کیے گئے ہیں تا دنیا بھر میں سرگرم عمل کروڑوں نونہالانِ احمدیت احمدی علم کلام کے زبردست دلائل و براہین سے باسانی متعارف ہو سکیں۔

مجھے یاد ہے منصبِ خلافت پر فائز ہونے سے قبل سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمدؒ

(خلیفۃ المسیح الرابع) ایک مرتبہ منڈی بہاؤ الدین تشریف لے گئے۔ حضرت صاحبزادہ صاحبؒ نے

یہاں پہلے نہایت ولولہ انگیز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا پھر ایک مجلس سوال و جواب سے اثر انگیز خطاب کیا۔ آپ کا خطبہ جمعہ اول سے آخر تک دعوتِ الی اللہ کی مؤثر تحریک پر مشتمل تھا۔ آپ نے پورے جلال و تمکنت سے فرمایا کہ اسی میں ہماری جان ہے اور یہی ہماری پہچان اور قومی نشان ہے جس سے احمدیوں نے بفضلہ تعالیٰ اپنی دعاؤں اور نمونہ کے ساتھ قلوبِ عالم کی تسخیر کرنی ہے۔

اس تعلق میں سیدی رحمہ اللہ نے موجود شطرنج کے مطالبہ انعام کی طرف اشارہ کیا اور مخلصین احمدیت کو درد بھرے اور مؤثر انداز میں توجہ دلائی کہ ۱۸۸۹ء سے اب تک ہر احمدی ہر سال صرف ایک نیا احمدی بھی بنانے کی کوشش کرتا تو آج ساری دنیا احمدی ہوتی اور جس طرح سمندر پانی کے قطروں سے لبریز ہے اور آسمان بے شمار ستاروں سے چمک دکم رہا ہے اور زمین لاتعداد ذروں سے بھری ہوئی ہے اسی طرح ہر جگہ صرف اور صرف احمدیت کا پھریرا الہر اتا ہوا نظر آتا۔ گو یہ الفاظ قطعی طور پر میرے ہیں مگر حضرت سیدی صاحبزادہ صاحبؒ کے خطبہ کی اصل روح یقیناً یہی تھی۔ ع

انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی

موجود شطرنج کا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اس پر اظہارِ خوشنودی کرتے ہوئے کہا میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اُس نے عرض کیا شطرنج کے چونسٹھ خانے ہیں۔ اس کے پہلے خانے میں ایک چاول دوسرے خانے میں پہلے خانے سے دُگنے اور تیسرے خانے میں دوسرے سے دُگنے، غرضیکہ اسی طرح علی الحساب چونسٹھ^{۱۶} خانے چاولوں سے پر کر دیئے جائیں۔ بادشاہ نے کہا یہ حقیر مطالبہ ہمارے شایانِ شان نہیں، کسی اور بڑے انعام کا مطالبہ کرو۔ موجود نے جواب دیا جس انعام کو آپ معمولی خیال فرماتے ہیں اس کو تمام روئے زمین کے خزانے بھی پورا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ علم حساب کے شاہی سکالرز نے حساب لگایا تو چاولوں کا مجموعی وزن پچتر کھرب من کے قریب نکلا۔ بادشاہ دنگ رہ گیا اور یہ حیرت انگیز حساب سن کر کہا کہ تمہارا یہ حسنِ طلب تو تمہارے حسنِ ایجاد سے بھی بڑھ کر مستحقِ انعام ہے۔ چنانچہ اس فیاض بادشاہ نے اس کو زرِ کثیر سے مالا مال کر دیا۔

(تلخیص از کتاب مخزنِ اخلاق تالیف علامہ رحمت اللہ سبحانی)

اب راقم الحروف اپنی حیات مستعار کے ۹۰ منتخب واقعات عشاق خلافت کی نذر کرتا ہے۔
 آخر میں دس ملکی و غیر ملکی شخصیات سے ملاقاتوں کی روداد بھی دے دی گئی ہے۔ اے کاش میری یہ ناچیز
 کاوش نافع الناس ثابت ہو اور بارگاہ ایزدی میں سند قبولیت کا ذریعہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔

مصطفیٰ پر تر اے حد ہو سلام اور رحمت

اُس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے

(اللہ جلّ شانہ، قرآن مجید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،

خانہ کعبہ، امہات المومنین)

اللہ جلّ شانہ

1- ”پچھلی صدی کے آخری عشرہ میں جبکہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ کے ارشاد مبارک پر جرمنی کے طول و عرض میں مجالس سوال و جواب میں شریک ہو رہا تھا، ایک معزز جرمن سکا لرنے یہ دلچسپ سوال کیا کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے بتایا کہ ایٹم (Atom) کی دریافت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اشیا جس قدر لطیف سے لطیف تر ہوتی جاتی ہیں ان میں طاقت و قوت کا بے پناہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سنسنی خیز انکشاف نے ساری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ آکسیجن (Oxygen) کے اربوں کھربوں ایٹم کی ضخامت بال کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ ایک انچ میں 12 کروڑ 50 لاکھ ایٹم کا غد کے پن کے سر پر (صرف) ایک ہی لائن میں تقریباً بیس لاکھ ایٹم رکھے جاسکتے ہیں۔ (سائنس شاہراہ ترقی پر صفحہ ۱۱۳۹ زلی ناصری دی ناشر کتاب منزل کشمیری بازار لاہور)

یہ جدید سائنس تحقیق بیان کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ ایٹم جیسی عظیم ترین مگر لطیف ترین طاقت کے خالق کو جس نام سے بھی آپ حضرات یاد کریں آپ مجاز ہیں، مگر آپ کو یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایٹم پیدا کرنے والی ہستی کو ایٹم سے بھی زیادہ لطیف اور درو اور اہلورا ہونا چاہیے ورنہ وہ ایٹم کی تخلیق ہرگز نہیں کر سکتا۔ غلامانِ مصطفیٰ کے ادنیٰ ترین چاکر کے اس جواب سے جرمن سکا لرن پوری طرح مطمئن ہو گئے جس کے بعد انہیں مزید کسی اور سوال کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

مرے پکڑنے کی قدرت تجھے کہاں صیاد

کہ باغِ حسنِ محمد کی عندلیب ہوں میں

اس زمانہ کے مامور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے قیامِ جماعت سے بھی چار سال قبل ۱۸۸۵ء میں ممالک عالم کے پیشوایانِ مذاہب اور سربراہانِ مملکت کو، جس میں جدید جرمنی کے بانی بسمارک بھی تھے، بذریعہ اشتہارات زندہ خدا کے زندہ معجزات دکھلانے کی دعوت دی۔ (الفضل انٹرنیشنل لنڈن ۱۲ تا ۱۳ دسمبر ۲۰۰۲ء، صفحہ ۳)

2- عرصہ ہوا بعض سعید الفطرت نوجوان ربوہ تشریف لائے۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ اگر آپ حضرات اپنے گھر جائیں اور آپ سے کوئی رشتہ دار بات ہی نہ کرے تو آپ کیا سمجھیں گے۔ کہنے لگے یہی کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب آپ غور فرمائیں کہ چودہ سو سال سے خدائے عزوجل صلحائے امت کو مکالمہ مخاطبہ اور الہامات سے نوازتا آرہا ہے۔ مگر آج سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی اُن کو جاری نہیں مانتا اور پوری دنیائے اسلام کے مذہبی لیڈر بھی نعمت الہام سے محروم ہیں۔ ثابت ہوا کہ خالق کائنات اُن سے ناراض ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا قیامت کے دن مجرموں سے ہرگز کلام نہیں کرے گا اور انہیں عذاب الیم میں داخل کر دے گا۔ (البقرہ: ۱۷۴)

3- ایک دفعہ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ ہمیں اگر خدا نے پیدا فرمایا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا ہے کیونکہ ”خدا“ کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس کی تخلیق اُسی کے وجود سے وابستہ ہے۔ غیر کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔

قرآن مجید

4- کشمیر کے محاذِ جنگ پر بھارت نے شدید بمباری کی تو میری دائیں آنکھ کا ایک پردہ پھٹ گیا اور اپریشن کے لیے مجھے لاہور کے میوہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ میرے ساتھ ہی ایک پُر جوش کمیونسٹ نوجوان کا بستر تھا جنہوں نے مجھے سوشلزم اور کمیونزم کا قائل کرنے کی ہفتوں کوشش کی۔ آخر میں کہنے لگے کہ قرآنی نظام صدیوں سے دنیا کے پردہ سے غائب ہے، مگر روس اشتراکیت کی بدولت دن دو گنی رات چو گنی ترقی کر رہا ہے۔ کیوں نہ مسلمان اسی کو اپنائیں۔ میں نے بتایا کہ قرآن کی رو سے کوئی وجود عبث پیدا نہیں کیا گیا اس لیے میں کارل مارکس، فریڈرک انجیلز، لینن، سٹالین اور دوسرے اشتراکی زعماء کا دلی احترام کرتا ہوں، بالخصوص کارل مارکس کا۔ وجہ یہ کہ اس نے جرمنی اور

فرانس جیسے پُرشکوہ ملکوں سے جلاوطنی گوارا کر لی مگر ان کے نظام حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جلاوطنی کے عالم میں انگلستان میں پناہ لی جہاں "DE CAPITAL" میں ایک نیا نظام پیش کیا جس کا اس سے پہلے تاریخ عالم میں نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی نہ قرآنی نظام موجود ہے نہ کمیونزم، اس لیے ہمیں اس ملک میں کوئی سیاسی و معاشی عمارت تعمیر کرنے سے پہلے مختلف نظاموں کے نقشوں پر غور کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ میں ثابت کر دکھاؤں گا کہ قرآنی نقشہ ہی بہترین ہے۔ کمیونسٹ دوست نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ نقشہ تو وہی درست ہے جو کتاب اللہ نے پیش کیا ہے۔ اس پر میں نے انہیں دعوت دی کہ وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو کر دنیا کو قرآن کے ضابطہ حیات سے روشناس کریں۔ تا نہ صرف پاکستان بلکہ تمام ممالک عالم کی تعمیر اسی آفاقی نقشہ کے مطابق ہو سکے۔

5- ایک مجلس میں ایک فاضل دوست نے سوال کیا کہ قرآن تو ایک محدود صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کے حقائق و معارف بانی سلسلہ احمدیہ کے دعویٰ کے مطابق غیر محدود کیونکر ہو سکتے ہیں؟ میں نے بے ساختہ جواب دیا کہ اردو کے حروف تہجی ۳۷، فارسی کے ۳۲ اور عربی کے ۲۹ ہیں۔ بایں ہمہ انہی چند حروف کو مختلف الفاظ میں ڈھال کر آج تک بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں اور یہ سلسلہ روز قیامت تک جاری رہے گا۔

6- ایک بار حضرت خلیفۃ المسیح الثالث "بیت الفضل" اسلام آباد کی بالائی منزل میں قیام فرماتے اور خاکسار نیچے کمرہ میں۔ پرویزی مسلک کے ایک نوجوان پیغام لائے کہ آپ کے مرزا صاحب نے مجھے آپ کے پاس بغرض گفتگو بھیجا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد مجدد، ولی، امام، نبی اور وحی والہام بلکہ سچی خواب کا دعویٰ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اب ہمارے لیے قیامت تک قرآن کافی ہے۔ (یاد رہے کہ یہی نظریہ ملک محمد جعفر خاں وزیر مملکت مذہبی امور کا تھا اور اسی کے مطابق انہوں نے ۷ تمبر کی قرارداد کا مسودہ لکھا۔ شاہد) میں نے ان کا پُر تپاک استقبال کیا اور عرض کیا کہ اس میں کسی مسلمان کو کلام نہیں کہ قرآن مجید مکمل دستور ہے مگر قیامت کا عالم یہ ہے کہ مسلم دنیا کے تمام ۲۴ فرقے اسی کامل قانون کے الگ الگ اور متضاد معنی کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک

قرآن کی ۲ تفسیریں ہیں۔ قرآن میں یہ بھی پیشگوئی ہے کہ دین کامل کو ساری دنیا پر غلبہ نصیب ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ دستور قرآنی کی ۲ تفسیروں میں سے کس کو مستند (AUTHORITY) قرار دے تا اس پر خود عمل کرے اور غیر مسلموں کو بھی دعوت قرآن دے۔ علماء خواہ لاکھوں ہوں وہ صرف اپنے فرقہ کے وکیل ہیں اور فیصلہ وکیل نہیں کر سکتے، حکومت کا مقرر کردہ حجج ہی کر سکتا ہے۔

اس دستوری نکتہ کو پیش کرنے کے بعد میں ان سے دریافت کیا کہ قرآن عظیم نے عاد، ارم، اصحاب الاخدود، اصحاب الحجر، تیج اور قوم اور فراعنہ مصر کا ذکر کیا ہے جن میں بعض کی آبادی متحدہ پاکستان سے بھی کم تھی۔ اگر آپ واقعی قرآن مجید کو کامل سمجھتے ہیں تو بتائیے آج پوری امت مسلمہ (جو کروڑوں پر محیط ہے) کی اس عالمی مصیبت اور اس کے علاج کا ذکر بھی اس میں لکھا ہے۔ میرے اس سوال پر وہ سخت پریشان ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے کبھی اس پہلو سے قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ بتائیے۔ اس پر میں نے کہا جماعت احمدیہ کا یقین ہے کہ بلاشبہ کتاب اللہ مکمل شریعت ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے عہد حاضر کے مسلمانوں کی کیفیت کا نقشہ ہی نہیں کھینچا، اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۰ میں صاف پیشگوئی موجود ہے کہ ایک وقت امت پر ایسا آئے گا جبکہ خبیث اور طیب یعنی قرآن کے غلط اور صحیح معانی آپس میں مخلوط ہو جائیں گے مگر خدا تعالیٰ جس نے اس آفاقی قانون کو اتارا ہے، اس صورت حال پر معاذ اللہ خاموش تماشائی نہیں بنا رہے گا۔ نہ وہ ہر مسلمان کو اصل معنی سے باخبر فرمائے گا بلکہ جسے وہ چاہے گا اسے رسول کے طور پر چن لے گا۔ اس وقت تمہارا فرض ہوگا کہ دستور قرآنی کی اس تشریح کو قبول کرو جو اس آسمانی حجج کی طرف سے کی جائے اور گواہی میں مشکلات بے انداز ہوں گی لیکن اگر ایمان لاؤ گے اور تقویٰ پر بھی قدم مارو گے تو تمہیں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ یہ قرآنی فیصلہ انہوں نے گہری دلچسپی سے سنا اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔

7- یہ خلافت ثانیہ کے آخری بابرکت دور کا واقعہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد نے حضرت مصلح موعود کی اجازت سے مجھے دنیا پور جانے کا ارشاد فرمایا جہاں مشہور احراری سائنس لال حسین اختر صاحب اشتعال انگیز تقریریں کر رہے تھے۔

جماعت احمدیہ دیناپور کے پریذیڈنٹ شیخ محمد اسلم صاحب نے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جس میں میں نے اختر صاحب کے تمام ضروری سوالوں کے جواب دیئے۔ اس کے دوران ان کی طرف سے مجھے مناظرہ کا چیلنج دیا گیا۔ میں نے اسے فوراً منظور کرنے کا لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا۔ مگر ساتھ ہی یہ شرط رکھی کہ تینوں متنازع موضوعات پر مباحثہ ہوگا اور ہوگا صرف قرآن مجید سے کیونکہ ہمارے خدا کا حکم ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر اور ظالم و فاسق ہیں۔ (المائدہ: ۴۵-۴۶) سائیں جی نے جواب دیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں۔ مرزا صاحب کی کتب ضرور پیش کریں گے۔ میں نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جواب سے روز روشن کی طرح کھل گیا کہ مکفرین احمدیت کے پاس گالیاں، استہزا اور پھکڑ بازی کے شعبدے تو موجود ہیں مگر قرآن ہرگز نہیں۔ یہ صرف احمدیوں کے پاس ہے۔

دنیا میں آج حامل قرآن کون ہے
گر ہم نہیں تو اور مسلمان کون ہے

8- ایک چکڑالوی یا پرویزی خیال کے تعلیم یافتہ دوست نے دوران گفتگو یہ نظریہ پیش کیا کہ رسول اللہ کا کام صرف قرآن ہم تک پہنچانا تھا۔ خاکسار نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ خود قرآن مجید ہی نے آپ کے اس خیال کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور سورہ جمعہ کی تیسری آیت میں بعثت نبوی کے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ تلاوت قرآن، صحابہ کا تزکیہ اور ان کو قرآن اور اس کی حکمت کی تعلیم دینا۔ مؤخر الذکر تینوں مقاصد کی تکمیل سنت و حدیث کے بغیر کیسے ممکن ہے؟

9- بہائی ازم کے ایک پر جوش حامی مدتوں قبل ربوہ میں مجھ سے ملے اور خدا کی ازلی سنت کے مطابق شریعتوں کی منسوخی پر بہت زور دیا اور اسی کو قرآن مجید کی منسوخی کا جواز بنایا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ تو آپ کو بھی منسلّم ہے کہ شرعی احکام تو بدلتے رہتے ہیں مگر خدا کی محکم پیشگوئیوں پر کبھی خطا متینخ نہیں کھینچا گیا کیونکہ اس سے خدائے علیم و خبیر کی توہین لازم آتی ہے۔ اب سنئے قرآن نے اطاعت رسول کے نتیجہ میں نبی، صدیق، شہید اور صالح کا انعام پانے کا حتمی وعدہ دے رکھا ہے۔ پس جب تک کم از کم ایک نبی آنحضرتؐ کی پیروی کی برکت سے ظاہر نہ ہو قرآن ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتا۔

دوسرے آپ کو مسلم ہے کہ انیسویں صدی کے وسط میں علی محمد باب صاحب نے ”بیان“ کے ذریعہ نئی شریعت دی جسے انیسویں صدی کے آخر میں ان کے جانشین بہاء اللہ صاحب نے منسوخ کر کے ایک نئی کتاب ”اقدس“ تصنیف کی۔ میں کہتا ہوں بفرض محال دونوں جدید شریعتیں خالق کائنات ہی نے دی تھیں تو اسی نے اپنے پاک نوشتوں کے مطابق آنحضرت ﷺ کے عاشق صادق بانی جماعت احمدیہ کو مبعوث فرمایا اور آپ نے خدا سے الہام پا کر ”براہین احمدیہ“ کے چاروں حصے (۱۸۸۰ء - ۱۸۸۱ء میں) شائع کیے جس میں آپ نے دنیا بھر میں بے شمار دلائل دے کر ڈنکے کی چوٹ منادی کی کہ آسمان کے نیچے صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سچی اور کامل اور تاثیروں پر مشتمل ہے۔ وہی بے نظیر ابدی معجزہ ہے اور وہ تیرہ سو سال سے مخالفوں کو اس کی مثل لانے کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ آپ نے پوری تحدی کے ساتھ اردو اور انگریزی میں اشتہار دیئے اور براہین احمدیہ کے دلائل کا جواب دینے والے کو دس ہزار روپے کا انعامی چیلنج دیا مگر دنیا کے کسی مذہبی لیڈر بالخصوص بابیت اور بہاء اللہ کے علمبرداروں کو اسے قبول کرنے کی آج تک جرأت نہیں ہوئی۔

۵۔ اے عزیز و سنو کہ بے قرآن - حق کو ملتا نہیں انساں

10- ایک بار مجھے جناب مولانا مبارک احمد صاحب نذیر مجاہد افریقہ (حال پرنسپل جامعہ احمدیہ کینیڈا) کے ساتھ بذریعہ بس اسلام آباد جانے کا قیمتی موقع میسر آیا۔ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک پُر جوش رکن بیٹھے تھے جو نظام اسلامی کے نفاذ میں اپنی پارٹی کی مساعی کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ میں نے نہایت ادب سے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف منعطف کرنے کی کوشش کی کہ نظام اسلامی تو اللہ جلشاندہ نے چودہ سو سال قبل قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک کے لیے نافذ فرما دیا ہے۔ اب ضرورت صرف یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور جو لوگ اپنے چھ فٹ کے جسم پر قرآن کی حکومت قائم نہیں کر سکتے ان کا دنیا بھر میں نظام اسلامی کے قیام کا پراپیگنڈا کرنا نہ صرف سیاسی ہتھکنڈا ہے بلکہ خدا، قرآن اور رسول کی گستاخی بھی ہے۔ خصوصاً جبکہ بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب نے ”نتیجات“ میں صاف اقرار کیا ہے کہ علماء کی نظام اسلامی کا نقشہ دریافت کرنے کی تمام تر کوششیں عبث اور بے کار ہو گئی ہیں کیونکہ ”زمانہ بالکل بدل چکا تھا اور علم و عمل کی دنیا

میں ایسا عظیم تغیر واقع ہو چکا تھا جس کو خدا کی نظر تو دیکھ سکتی تھی مگر کسی غیر نبی انسان کی نظر میں طاقت نہ تھی کہ قرون اور صدیوں کے پردے اٹھا کر اُن تک پہنچ سکتی۔“

(’تنقیحات‘، صفحہ ۲۷ ناشر مکتبہ جماعت اسلامی پٹھان کوٹ)

مودودی صاحب واضح طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ غیر نبی کی نظر آج اسلام کے صحیح خدو خال سے ہی آشنا نہیں ہو سکتی کجا یہ کہ اس کے عملی قیام کا ادعا کر سکے۔

مگر یہ حضرت آخر سفر تک یہی رٹ لگاتے رہے کہ عہد حاضر کے دوسرے دساتیر عالم کی طرح جب تک قرآن کے فوجداری، دیوانی اور مالی احکام کو آرٹیکل (ARTICLE) اور کلاز (CLAUSE) میں نہ ڈھالا جائے، اسلام کا عملی نفاذ ہرگز ممکن نہیں۔

حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کا اقرار تو کئی مستشرقین کو بھی ہے مثلاً مشہور مؤرخ ایڈورڈ گین لکھتا ہے:

"From the Atlantic to the Ganges the Koran is acknowledged as the fundamental code, not only of theology but of civil and criminal jurisprudence; and the laws which regulate the actions and the property of mankind are guarded by the infallible and immutable sanction of the will of God."

(The decline and fall of the Roman Empire by: Edward Gibbon Page: 694-695 First

published by Chatto and Windus 1960)

11- زیارت ربوہ کے لیے آنے والے وفد میں شامل ایک سنجیدہ نوجوان نے دریافت کیا کہ جب دین کامل ہو گیا تو اب کسی نبی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ (المائدہ: ۴) کی مکمل آیت پڑھی اور بتایا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے چودہ سو سال قبل کمال دین کی خوشخبری دیتے ہوئے ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی تھی کہ ہم نے امت پر ”اتمام نعمت“ بھی فرمادی ہے جس کے معنی سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کے مطابق فیضان نبوت کے عطا کیے جانے کے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں ہے کہ ہم نے حضرت یوسف، آل یعقوب اور ابراہیم و اسحاق پر بھی اتمام نعمت فرمائی۔ یعنی اُن کو نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہیں از حد حیرت ہوئی کہ واقعی یہ الفاظ

کلام اللہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ المائدہ اور سورہ یوسف کی معین آیات ملاحظہ کر کے وہ مطمئن ہو گئے۔ دوران گفتگو ان کی خدمت میں یہ نکتہ بھی پیش کرنے کی توفیق ملی کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کتابیں چار نازل ہوئیں اور نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے۔ دوسرے الفاظ میں مذہب کی ۵ ہزار سالہ تاریخ میں صرف چار شرعی نبی مبعوث ہوئے اور باقی سب کا مشن پہلی شریعت ہی کا احیا اور از سر نو قیام تھا۔ اس اعتبار سے بھی الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے لفظ یہی معنی متعین ہوتے ہیں کہ قرآن شریف قیامت تک کے لیے مکمل کتاب ہے۔ اب کوئی شخص کسی نئی شریعت کا حامل نہیں ہو سکتا اور اس عقیدہ پر احمدیوں کا مکمل ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بابیت و بہائیت کے خلاف شروع سے لسانی و قلمی جہاد کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مخالف احمدیت علماء جو ”ختم نبوت“ کے محافظ بنے پھرتے ہیں ان دجالی تحریکوں کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں جس سے آنحضرتؐ کی پرانوار ذات اقدس سے ان کی پوشیدہ عداوت اور دشمنی کا صاف پتہ چل جاتا ہے۔ یہ گروہ قرآنی روح سے بیگانہ محض طبقہ رسول اور نبی میں امتیاز کرتا ہے۔ اس کے عقیدہ کے مطابق رسول نئی شریعت لاتا ہے جبکہ نبی کے لیے یہ ضروری نہیں۔ قرآن سے باغی بہائی فرقہ کی بنیاد بالکل یہی ہے اور ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن نے آنحضرتؐ کو ”خاتم النبیین“ کا خطاب دیا ہے خاتم الرسل کا نہیں۔ ثابت ہوا نئی شریعت آ سکتی ہے اور یہی دعویٰ باب اور بہاء اللہ کا تھا۔ فرمائیے مکفر علماء پر کیوں سکوت مرگ طاری ہے اور وہ کیوں اس کا جواب نہیں دیتے۔

احمدی چونکہ عاشق قرآن ہیں اس لیے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس شرمناک عقیدہ کو گوارا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بیک وقت رسول و نبی دونوں القاب سے یاد فرمایا ہے۔ (سورہ مریم: ۵۵) اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ابراہیمی شریعت کے تابع تھے۔ ہرگز کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔

دراصل رسول و نبی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اس کو مامور کیا جاتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے اور کثرت مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہونے کے باعث اُس کا نام نبی رکھا جاتا ہے۔

خانہ کعبہ

12- دفتر ”شعبہ تاریخ احمدیت“ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ، ہز ایکسی لینسی سفیر چین، مکرم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مشہور عالم نوبل انعام یافتہ سائنسدان اور سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب (خلیفۃ المسیح الخامس) نے اپنے مبارک قدموں سے اس کو بھی برکت بخشی ہے۔

ایک بار حضرت مولانا عبدالملک خاں صاحب ناظر اصلاح و ارشاد ایک اثناعشری معزز دوست کو لے کر تشریف لائے جنہوں نے آتے ہی فرمایا کہ آپ لوگ عرب میں بھی اثر و نفوذ کے دعاوی کرنے کے خوگر ہیں لیکن آپ پر تو خانہ کعبہ کے دروازے ہی بند کر دیئے گئے ہیں۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا قبلہ یہ اعتراض کی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود اور جماعت احمدیہ کی صداقت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ چنانچہ میں نے تفسیر الصافی سے سورہ القیامۃ کی آیت نمبر ۱۰ کی یہ حقیقت افروز تفسیر انہیں پڑھ کر سنائی۔

”وجمع الشمس والقمر فی الغیبة عن القائم علیہ السلام انه
سئل متی یكون هذا الامر اذا حیل بینکم و بین سبیل
الکعبة واجتمع الشمس والقمر واستدار بہما الکواکب
والنجوم۔“

(کتاب ”الصافی فی تفسیر القرآن“، مؤلف لقا فیض الکاظمی من منشورات المکتبۃ الاسلامیہ طہران المجلد الثانی صفحہ ۶۵ تا ۶۷ چاپ چہارم) ترجمہ: ”کتاب الغیبة“ میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند جمع کیے جائیں گے۔ امام قائم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ یہ معاملہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے اور کعبہ کے راستے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ یعنی تمہیں کعبہ جانے سے روک دیا جائے گا۔ سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ ستارے اور کوکب سب ان دونوں کے ارد گرد پھرنے لگیں گے۔

یہ پیشگوئی پڑھتے ہی وہ صاحب یکا یک اٹھ کھڑے ہوئے اور مولانا عبدالملک خاں صاحب کو ساتھ لے کر لاہور سے بھی باہر چل دیئے۔ بعد میں مولانا نے بتایا کہ یہ صاحب اس بات پر سخت حیران تھے کہ انہیں میرے شیعہ ہونے کا علم کیسے ہو گیا؟

خاتم الانبیا محمد مصطفیٰ (ﷺ)

13-1990ء میں اور میرے آٹھ مخلص ساتھی ”تلونڈی موسیٰ خان“ کے کیس میں ماخوذ تھے۔ محترم مکرم خواجہ سرفراز احمد صاحب ایڈووکیٹ جیسے عاشق احمدیت ہمارے وکیل تھے۔ ہم لوگ گوجرانوالہ کی سیشن کورٹ میں پیشی کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ شہر کے عربی مدارس کے کئی طلبہ اور بعض دیگر شرفا بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ معراج جسمانی تھا کہ روحانی؟ پہلے تو میں نے انہیں آنحضرتؐ کی یہ حدیث سنائی کہ سوال علمی خزانہ کی چابی ہے۔ (درمنثور للسیوطی جلد ۲ صفحہ ۶۹) پھر ان کا شکر یہ ادا کر کے یہ جواب دیا کہ معراج جسمانی تھا مگر نورانی جسم کے ساتھ۔ اگر مادی صورت میں ہوتا تو اس وقت اتنی بڑی مسجد اقصیٰ کا ہونا ضروری ہے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے آنحضورؐ کی امامت و سیادت میں نماز پڑھی لیکن تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ موجودہ مسجد اقصیٰ ولید بن عبدالملک نے تعمیر کرائی۔ ایک حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس کو عرش پر قیامت تک ہونے والی پوری امت کا نظارہ دکھایا گیا جو آفاق پر محیط تھی۔

پس جو شخص معراج کو مادی قرار دیتا ہے اُسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آنحضرت ﷺ تو بعد میں عرش پر تشریف لے گئے لیکن پوری امت آپ سے پہلے ہی آسمان پر موجود تھی۔ اس سوال نے گویا مجلس پر ایک لرزہ طاری کر دیا۔ پھر کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ میں نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ معراج دراصل آنحضرتؐ کے مقام ختم نبوت کی عملی تفسیر ہے جس میں آپ کو کشفی طور پر مشاہدہ کرایا گیا کہ آپ جملہ نبیوں کے امام ہیں اور جہاں دوسرے نبیوں کے مقامات ختم ہوتے ہیں وہاں سے آپ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اللہم صل علیٰ محمد و آل محمد۔

14- جس دن ناروے میں بدنام زمانہ شاتم رسول رُشدی کی کتاب کے نارویجن ترجمہ کی تقریب رونمائی تھی، اتفاق یہ ہوا کہ اوسلو کے ایک مقامی کالج نے عین اس روز مجھے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ اس دن ناروے میں مسلمانوں کے خلاف شدید اشتعال پھیلا ہوا تھا۔

محترم جناب امیر صاحب ناروے نے ترجمانی کے لیے ایک احمدی طالبہ میرے ساتھ کی اور میں عین وقت پر کالج ہال میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کالجیٹ طلبا اور طالبات تیز سوالوں کی

بوچھاڑ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ان کے چہروں سے نفرت و حقارت صاف ٹپک رہی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر کالج کے اساتذہ اور طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عالمگیر جماعت احمدیہ کا ایک ادنیٰ ترین چاکر ہوں۔ اس وقت میرا پہلا پیغام تو دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں کے نام ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کا یہ اسوہ مشعل راہ کے طور پر پیش نظر رکھیں کہ آپ نے فتح مکہ پر ہزاروں ”رُشدیوں“ کو معاف کر دیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر طلبا نے اپنے قلم میزوں پر رکھ دیئے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ میری آگلی بات سننے کو تیار ہو گئے۔

میں اپنے ساتھ بائبل کے انگریزی، عربی اور نارویجن زبان کے کئی ایڈیشن لے گیا تھا جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بائبل استثنا باب ۳۳ میں حضرت موسیٰ کی یہ پیشگوئی موجود ہے:

”خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا اور فاران کے

پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے دانپنے

ہاتھ میں ایک آتشی شریعت اُن کے لیے تھی۔“ (آیت ۳)

میں نے بتایا اس پیشگوئی میں فاران سے مراد مکہ ہے اور دس ہزار قدوسی وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمراہ تھے اور ”آتشی شریعت“ قرآن مجید ہے۔ اسی مختصر تشریح کے بعد میں نے زور دار الفاظ میں کہا کہ:

پس میرا دوسرا پیغام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ سچے مسیحی بنا چاہتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی اس پیشگوئی پر ایمان لا کر بانی اسلام کے جھنڈے تلے آجائیں۔ آخر میں خاکسار نے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ بجائے اس کے کہ مسیحی سکالر اور مذہبی رہنما اس پیشگوئی کے مطابق مسلمان ہو جاتے انہوں نے بائبل کے نئے ایڈیشنوں میں دس ہزار کی بجائے لاکھوں کر دیا ہے اور ایک ایڈیشن میں جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، پوری آیت ہی خارج کر دی گئی ہے۔

اس مختصر تقریر کے بعد سوال و جواب کا وقت مقرر تھا۔ مگر اس وقت تو سب طلبا پر گویا سکوت

مرگ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کالج کے معزز اسٹاف نے میرا شکر یہ ادا کیا اور پُر تپاک طریق سے مجھے اور ترجمان طالبہ کو الوداع کیا۔

15- 1963ء میں راقم الحروف ’تاریخ احمدیت‘ عہد خلافت اولیٰ کی معلومات کی تلاش میں بذریعہ ریل بھیرہ گیا۔ میرے کمرے میں بریلوی اور دیوبندی علماء میں آنحضرت ﷺ کے نور اور بشر ہونے کی بحث چھڑ گئی۔ قریب تھا کہ نوبت ہاتھ پائی تک پہنچتی، ایک نوجوان نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا یہ صاحب بھی عالم دین معلوم ہوتے ہیں ان کی رائے بھی معلوم کر لی جائے۔ اس معقول تجویز پر یکا یک فضا بدل گئی اور تمام لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے اپنا نقطہ نگاہ یہ پیش کیا کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ﷺ نوری بشر تھے اس لیے کہ نور تو جبریل بھی تھے مگر معراج رسالت میں نور محمدی نور جبرائیل سے آگے بڑھ کر عرش عظیم تک پہنچ گیا۔ وجہ یہ کہ نور محمدی نور بشریت کے جلوہ سے بھی منور تھا۔ میں نے دونوں مکتبہ فکر کے علماء کرام سے درد مندانہ اپیل کی کہ قرآن مجید نے آنحضرتؐ کو صرف نور نہیں سراج منیر قرار دیا ہے یعنی نور پھیلانے والا سورج۔ چنانچہ آنحضرتؐ کی قوت قدسیہ نے تمام صحابہؓ، خلفاءؓ اور اولیائے امت کو نور بنا دیا۔ اسی طرح سرکار مدینہ کو ’یسس‘ کا لقب بھی عطا ہوا ہے جس کے معنی سید البشر کے ہیں۔ پس میں درخواست کروں گا بریلوی حضرات آنحضرت ﷺ کو ’سراج منیر‘ سے موسوم کیا کریں اور اہل حدیث اور دیوبندی بزرگ ’یسس‘ (یعنی سید البشر) کے خطاب سے یاد فرمائیں۔ اس طرح امت مرحومہ انتشار سے بچ جائے گی اور سب غیر مسلموں کو مسلمان بنانے میں سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ میرے خیالات کا سبھی پر گہرا اثر ہوا۔ بعد ازاں میں نے بتایا کہ یہ عاجز جماعت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ اس وقت میں نے ان کی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ ان کے دل میرے لیے جذبات شکر سے لبریز ہیں۔ فالحمد للہ۔

16- سیدنا محمود حضرت مصلح موعود کے عہد مبارک کے آخری دور کا واقعہ ہے جبکہ حضرت سیدی مرزا ناصر احمد صاحب نے مجھے جلسہ سالانہ کے لیے پرالی فراہم کرنے کی غرض سے تحصیل حافظ آباد بھجوایا۔ میں شام کو حافظ آباد سے بذریعہ ٹانگا کولو تارٹو پہنچا۔ جہاں قصبہ کے رئیس اعظم چوہدری محمد فیروز صاحب تارٹو جماعت کے پریزیڈنٹ تھے۔ اگرچہ آپ اس وقت بستی میں نہ تھے مگر ان کی حویلی میں ان کے بعض عزیزین مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ وہیں ایک اہل حدیث عالم

جناب مولوی عبدالقادر صاحب بھی موجود تھے۔ جونہی میں نے سلام کیا انہوں نے فرمایا معلوم ہوتا ہے آپ ربوہ سے آرہے ہیں۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اے کاش آپ کا ختم نبوت پر بھی ایمان ہوتا۔ میں نے بے ساختہ جواب دیا آج پوری دنیا میں صرف احمدی ہی ختم نبوت کے قائل ہیں جس کا ایک فیصلہ کن ثبوت یہ ہے کہ دیوبندی عالم دین شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے رسالہ ”الشہاب“ میں اگرچہ ہمیں کافر اور واجب القتل تک لکھا ہے مگر آیت خاتم النبیین کی یہ تفسیر کرنے پر وہ بھی مجبور ہیں کہ:

”جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلعم پر ختم ہوتا ہے۔ بدیں لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ (ترجمہ قرآن مجید حاشیہ بر خاتم النبیین)

میری زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی جناب ”مولانا“ صاحب سخت مشتعل ہو گئے اور متحدی کے ساتھ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میرے پاس علامہ عثمانی کا ترجمہ موجود ہے جس میں ہرگز یہ تشریح موجود نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر گئے اور ترجمہ لے آئے اور چیلنج کیا کہ یہ عبارت اس میں سے نکال کر دکھاؤ ورنہ افترا پردازی کا اقرار کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ تشریح آیت خاتم النبیین کے ترجمہ کے دوسرے صفحہ پر ہے میں نے اطمینان سے آیت کے ترجمہ کا صفحہ الٹ کر دوسرے صفحہ پر موجود یہ پوری عبارت اُن کے سامنے رکھ دی۔ مولوی صاحب یہ دیکھ کر ہکا بکارہ گئے اور ساتھ ہی مجلس میں موجود ۱۰۰ یوں میں خوشی کی زبردست لہر دوڑ گئی۔ میں نے پُر زور الفاظ میں کہا کہ اس تفسیر سے صاف ثابت ہوا کہ ”خاتم“ کے معنی مہر کے اور خاتم النبیین کے معنی نبی بنانے والی مہر کے ہیں جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو اپنی مہر سے نبوت بخشی۔ عہد حاضر کے تمام مکفر علماء فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی مہر اب نبی نہیں بنا سکتی۔ لیکن احمدی ڈنکے کی چوٹ پر ایک صدی سے اعلان عام کر رہے ہیں کہ مہر محمدی ازلی اور ابدی ہے اور آج بھی نبی بنا سکتی ہے۔ لہذا صرف اور صرف احمدی ہی ختم نبوت کے قائل ہیں اور انہی ہاتھوں ہی میں اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کا پرچم تھمایا ہے۔ یہ سنتے ہی

مولوی عبدالقادر صاحب نے بھی خدا ترسی کا ثبوت دیتے ہوئے بھری مجلس میں اقرار کیا کہ بلاشبہ تمام مسلمانوں میں احمدی ہی خاتم النبیین کو صحیح معنوں میں تسلیم کرتے ہیں۔

17- ۷/ ستمبر کے بدنام زمانہ فیصلہ کے چند ماہ بعد جدہ سے ایک عرب بزرگ سیالکوٹ کے ایک احمدی دوست کے ہمراہ دفتر شعبہ تاریخ تشریف لائے۔ فرمانے لگے مختصر وقت میں مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اسمبلی نے آپ لوگوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں از خود جواب دینے کی بجائے سعودی عرب کے مسلمہ مجدد حضرت محمد بن عبدالوہاب (المتوفی ۱۲۰۶ھ مطابق ۱۷۹۲ء) کی ”مختصر سیرت الرسول“ مطبوعہ بیروت کا صفحہ ۱۷۲-۱۷۳ ان کے سامنے رکھا جس میں لکھا تھا کہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اور تمام امت مسلمہ جن مرتدوں کے خلاف سرکف ہوئی ان کا عقیدہ تھا ”انقضت النبوة فلا نطیع احداً بعدہ“ یعنی آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا غیر مشروط اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ کے بعد ہم کسی اور کی اطاعت ہرگز نہیں کریں گے اور بالکل نہیں کریں گے۔ میں نے دیار حرم کے اس معزز مہمان سے پوچھا کہ عہد صدیقی کے ان مرتدوں اور اسمبلی کی موجودہ قرارداد میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں۔ وہ پکاراٹھے ”والله لافرق بینہما الا ان عقیدة المرتدین طبعت فی اللسان العربیہ ونص البارلیمان فی الاردیہ“ یعنی خدا کی قسم دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ مرتدوں کا عقیدہ عربی زبان میں ہے اور پاکستان پارلیمنٹ کی قرارداد اردو میں ہے۔

اس کے بعد میں نے کتاب کے صفحات ۱۲، ۱۳، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸ بھی انہیں دکھائے جن میں حضرت علامہ محمد بن عبدالوہابؒ نے لکھا ہے کہ آج اصل اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ رسول کے مطابق تہتر فرقوں میں سے صرف ایک کو ناجی کہا جائے۔ جو شخص اس کی معرفت رکھتا ہے وہی فقیہ ہے اور جو اس پر عمل پیرا ہے وہی مسلمان ہے۔ نیز یہ کہ صحابی رسول حضرت جارود بن معلیٰ نے آنحضرتؐ کے وصال پر مرتد ہونے والے قبیلہ عبدالقیس میں یہ باطل شکن بیان دیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ اسی طرح وفات پا گئے جس طرح حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام۔ یہ سنتے ہی پورا قبیلہ از سر نو حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

18-2002ء میں یورپ کے سفروں کے دوران یہ خاکسار فرانس بھی پہنچا۔ اثنائے قیام میں نے پیرس مسجد کے قریب ایک لبنانی کتب خانہ سے عربی لٹریچر خریدا جس میں ایک ہزار سال برس قبل کے شہرہ آفاق صوفی اور عارف باللہ حضرت شیخ محمد الحکیم الترمذی کی ”کتاب ختم الاولیاء“ بھی تھی۔ اس کتاب کی مجھے مدت سے تلاش تھی۔ امارات متحدہ کے کتب خانوں سے بھی دستیاب نہ ہو سکی تھی۔ میں نے صاحب مکتبہ کا از حد شکر یہ ادا کر کے اس کا ہدیہ پیش کر دیا اور پھر معاً بعد کتاب کا صفحہ ۳۴۱ ملاحظہ کرنے کی درخواست کی جس میں لکھا تھا کہ وہ شخص جو خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کرتا ہے وہ اندھا ہے۔ اس میں بھلا آنحضرت ﷺ کی کیا منقبت (خوبی) ہے۔ یہ تاویل تو پاگلوں اور جاہلوں کی تاویل ہے۔ علم نواز لبنانی بزرگ یہ عبارت پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ میں نے اُن سے یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ السیدی بعینہم یہی عقیدہ جماعت احمدیہ کا ہے۔ انہوں نے بڑے غور سے میری بات سنی اور نہایت درجہ خندہ پیشانی اور کمال عقیدت اور احترام سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو (جنہیں جناب اشفاق ربانی صاحب امیر جماعت فرانس نے میرے ساتھ کیا تھا) رخصت کیا۔

19- اواخر ۱۹۹۴ء میں جنوبی ہند کے شہر کوئٹھور (تامل ناڈو) میں تین اختلافی مباحث پر نہایت پُر امن مباحثہ ہوا۔ امام عالی مقام سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابع نے حافظ مظفر احمد صاحب اور خاکسار کو احمدی مناظرین کی معاونت کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز بھجوایا۔ ختم نبوت کے موضوع پر اہل حدیث مناظر مولوی زین العابدین صاحب (نمائندہ جمعیت اہل القرآن والحدیث) نے پورے زور سے یہ نظریہ بار بار پیش کیا کہ قرآن مجید کی رو سے ہر رسول کی امت ہے لکل امة رسول (یونس) لہذا اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو اُن کی امت مسلمانوں سے بالکل الگ اور نئی امت ہے۔ دوران مباحثہ اللہ جلّ شانہ نے حضرت امام ہمام خلیفۃ المسیح الرابع کی زبردست روحانی توجہ کی برکت سے میری توجہ اس طرف منعطف کرائی کہ حدیث نبوی کے انڈیکس سے معلوم کیا جائے کہ نبی کتنے ہوئے اور امتیں کس قدر گزریں۔ خدا کی اعجازی نصرت دیکھئے چند منٹوں کی ورق گردانی سے مسند احمد بن حنبل جلد ۵ ہی سے اسی مضمون کی دو حدیثیں مل گئیں۔ (صفحہ ۱۱۵ اور ۱۳۵) جن میں فرمان نبوی درج تھا۔ امت مسلمہ سے قبل انہتر امتیں ہوئیں اور نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھیں۔

بوقت شب حسب دستور مناظر جماعت مولانا محمد عمر صاحب فاضل مبلغ کیرالہ (حال ناظر اصلاح ارشاد قادیان)، جناب حافظ مظفر احمد صاحب اور یہ عاجز بغرض مشورہ بیٹھے تو میں نے مولانا محمد عمر صاحب سے عرض کیا کہ کل ’’ختم نبوت‘‘ پر بحث کا آخری دن ہے۔ آپ آخری تقریر میں پورے جلال و تمکنت کے ساتھ سامعین کو بتائیں کہ ہم نے تو قرآنی دلائل سے فیضان کا جاری ہونا ثابت کر دیا ہے۔ مگر افسوس جناب مولانا زین العابدین صاحب قرآن مجید کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم سے نہیں سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی حدیث سے ثابت ہے کہ امتیں صرف ۶۹ آئیں مگر نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد میں مبعوث ہوئے۔ مگر ہر عاشق رسول کا دل یہ دیکھ کر پاش پاش ہو جاتا ہے کہ فاضل مناظر نے دربار خاتم النبیین کا فیصلہ نہایت بے دردی سے چاک چاک کر ڈالا اور سارا وقت اپنا خود ساختہ نظریہ اور ڈھکونسلہ پیش کرنے میں ضائع کر دیا۔

چنانچہ اگلے روز مکرم مولانا محمد عمر صاحب فاضل نے جو نبی اپنی تقریر میں یہ اثر انگیز اور انقلابی نکتہ پیش فرمایا، مولوی زین العابدین صاحب اور ان کے مددگار علماء (جو شروع دن سے ہمیں مرعوب کرنے کے لیے سینکڑوں کتابیں میزوں پر سجائے اور بازار لگائے بیٹھے تھے) یکا یک کھڑے ہو گئے اور احمدی مناظر سے اصل احادیث دکھانے کا مطالبہ کیا جو بفضلہ تعالیٰ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ مگر روایت دیکھنے کے باوجود ان حضرات نے اپنا ہنگامہ جاری رکھا اور دہشت زدہ ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ علم اسماء الرجال کے مطابق ان حدیثوں کا فلاں راوی ضعیف ہے۔ مکرم حافظ مظفر احمد صاحب نے فوراً باواز بلند یہ پر شوکت جواب دیا کہ آپ حضرات جس راوی پر جرح و تنقید فرما رہے ہیں وہ ان احادیث کی اسناد میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ سن کر فریق ثانی کے علمائے کرام پر تو گویا ایک بجلی سی گر پڑی اور وہ آپس میں ہی الجھ پڑے اور اپنے نمائندہ مناظر پر حُفْلٰی کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہہ ڈالا کہ ایسے بے بنیاد سوال کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ تاریخی دن ہمارے لیے یوم الفرقان سے کم نہ تھا جسے ویڈیو کیمرہ کی آنکھ نے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔

20- اگرچہ سورہ نساء میں اطاعت رسول عربی کی برکت سے نبی، صدیق، شہید اور صالح کے درجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک عالم دین نے بوقت ملاقات یہ عجیب بات کی کہ ان چار درجات میں سے نبی کا ذکر میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ صرف باقی درجوں کی نسبت کچھ روشنی ڈالیے۔ میں نے دریافت کیا کہ ”صدیق“ آسکتے ہیں؟ جواب دیا ہاں۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ صدیق کی اصطلاحی تعریف بتلائیے۔ اُن کی زبان سے بے ساختہ نکلا جو خدا کے نبی کا پاک چہرہ دیکھتے ہی اول نمبر پر ایمان لے آئے، صدیق کہلاتا ہے۔ میں نے اُن کی علمی معلومات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ نے صدیق کی بالکل ٹھیک تعریف کی ہے اور حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجۃ اللہ البالغۃ میں، حضرت علامہ سیوطی نے تفسیر درمنثور میں، حضرت خواجہ میر درد دہلوی نے ملفوظات میں، حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اور چشتی بزرگ حضرت نظام الدین بدایونی نے ہشت بہشت میں بالکل یہی تعریف ”صدیق“ کی بیان فرمائی ہے۔ اب میں آپ سے بصد ادب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فیضان کوثر نبوی کی بدولت باب نبوت بند ہے تو کسی امتی کو مرتبہ صدیقیت کیسے مل سکے گا۔ یہ بزرگ عالم آبدیدہ ہو کر فرمانے لگے کہ خدا شاہد ہے کہ اس طرف نہ کسی نے مجھے توجہ دلائی نہ خود مجھے ہی اس کا خیال آیا۔ یہاں میں یہ تصریح کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ خاکسار نے سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کے ملفوظات میں یہ تعریف دیکھی تھی جس کی سحر آفرینی کا مشاہدہ اُس دن ہوا۔

21- خدام الاحمدیہ مرکز یہ پاکستان کے اجتماع ۱۹۸۲ء پر حسب دستور مجلس سوال و جواب کا خصوصی پروگرام تھا جس میں حضرت سیدی مرزا طاہر احمد صاحب، حضرت ملک سیف الرحمن صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ اور پروفیسر نصیر احمد خاں صاحب بھی شریک محفل تھے۔ ایک پرچی کے ذریعہ سوال کیا گیا کہ کیا حضرت مسیح موعود کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے۔ میں نے جواباً بتایا کہ اس سوال کا جواب حضرت خلیفہ ثالث نے اسمبلی ۱۹۷۷ء میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ نے ”تقویۃ الایمان“ میں تحریر فرمایا ہے کہ خدا تو وہ شہنشاہ ہے جو ایک حرف کئی کے نتیجے میں کروڑوں نبی ہی نہیں کروڑوں محمد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ خاکسار کا بھی یہی جواب ہے البتہ مزید مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ سوال کرنے والے صاحب اگر احمدی ہیں تو انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کی جناب میں مستقبل میں کسی مامور کا آنا مقدر ہے تو اُن کی صالح اولادیں اُس پر ضرور ایمان لے آئیں گے لیکن یہ سوال اگر

کسی غیر از جماعت بزرگ کا ہے تو میں اُن سے بادب کہوں گا کہ جو امتی نبی خاتم النبیین کی غلامی میں برپا ہو چکا ہے پہلے اُس کو تو صدق دل سے قبول فرمائیں وگرنہ ایسا سوال ”ذہنی عیاشی“ کے سوا کچھ نہیں۔

22-1946ء میں جبکہ راقم الحروف جامعہ احمدیہ کا طالب علم تھا، رمضان المبارک کے دوران درس قرآن اور تراویح کے لیے بنگہ ضلع جالندھر میں مقیم تھا۔ دریں اثنا مجھے مولانا کریم الہی صاحب ظفر مجاہد سپین کے ایک عزیز ڈاکٹر فضل حق صاحب کے کلینک پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بنگہ کے ایک آریہ سماجی جنٹلمین سے جو پہلے ہی تشریف رکھتے تھے، میرا تعارف کرایا۔ قادیان کا نام سنتے ہی وہ جوش میں آگئے اور اعتراض کیا کہ آپ کے نبی کریم ساری عمر اهدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہے۔ ثابت ہوا معاذ اللہ انہیں آخر دم تک حق تک رسائی نہیں ہو سکی۔ دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ کے شروع میں صاف لکھا ہے کہ قرآن صرف متقیوں کو ہدایت دیتا ہے گنہگاروں کو نہیں دے سکتا۔ بھلا اس کے نزول کا فائدہ کیا ہوا۔

ان اعتراضات پر ان صاحب کو بہت ناز تھا۔ خود ڈاکٹر فضل حق صاحب بڑی بے تابی سے جواب کے لیے مجسم بے قرار اور پیکرِ اضطراب بنے ہوئے تھے۔ میں نے آریہ نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہندو دھرم میں شکتی مان ایثور یا پرما تما کو محدود ہستی بتایا گیا ہے یا غیر محدود؟ اس کا مجھے علم نہیں مگر قرآنی نظریہ کے مطابق خدا تعالیٰ بھی غیر محدود ہے اور اُس کے قرب کی راہیں بھی بے حد بے حساب ہیں۔ لہذا آنحضرت ﷺ کا پوری عمر ”اهدنا“ کی دعا دنیا کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبیوں کا شہنشاہ بھی ہو تو اس کے لیے بھی مولا کریم کے فضلوں کے بے شمار دروازے کھلے ہیں۔

جہاں تک قرآن کے ”هدی للمتقین“ ہونے کا تعلق ہے اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ پہلی کتابیں اور صحیفے انسان کو زیادہ سے زیادہ متقی بنا سکتی تھیں مگر قرآن جیسی کامل کتاب متقیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ علاوہ ازیں متقی کے معنی مسلمہ طور پر پرہیزگار کے ہیں۔ اب ظاہر ہے دو خواہ کس درجہ زوداثر ہو فائدہ صرف اُس کو ہو سکتا ہے جو علاج کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پرہیز بھی کرے۔ میرے جواب پر آریہ سماجی معترض بالکل ساکت و صامت ہو گئے اور ڈاکٹر فضل حق صاحب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔

23- خدائی نصرتوں کا ۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کے بعد ایک عظیم الشان دروازہ کھل گیا اور پاکستان کے طول و عرض سے ہر جمہرات کو خلیفہ راشد حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کے حضور بکثرت وفد آنے لگے۔ حضور انور کا ارشاد تھا کہ تم شام تک خلافت لائبریری میں رہو تا میری ملاقات کے بعد اصل حوالے دکھا سکو یا مزید استفسارات کے جواب دے سکو۔ چنانچہ کئی برسوں تک عاجز کو اس خدمت کی توفیق ملی۔ خدا کے فضل سے ابتلا کے ان پُرفتن ایام میں بہت سی سعید روحیں حلقہ بگوش احمدیت ہوئیں۔ ایک بار وفد کے بعض غیر از جماعت معززین نے یہ اعتراض خوب اچھالا کہ احمدی یقیناً ختم نبوت کے منکر ہیں۔ خاکسار نے حضرت مسیح موعود کی کتاب براہین احمدیہ (حصہ چہارم طبع اول صفحہ ۵۰۲-۵۰۳ حاشیہ در حاشیہ مطبوعہ ۱۸۸۴ء) کا یہ الہام اُن کے سامنے رکھا:

”صل علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین“

دروذ بھیج محمدؐ اور آل محمدؐ پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم النبیین ہے۔ (ﷺ)

میں نے درد مند دل سے عرض کیا کہ یہ الہام قیام جماعت سے بھی چھ سال قبل کا ہے جبکہ آپ اور ہم میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ جماعت احمدیہ کا الہامی دستور اور آفاقی منشور ہے جس پر ایمان لائے بغیر قیامت تک کوئی احمدی ہی نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت ہے کہ یہ الہامی شرط دنیا کے کسی مسلمان فرقے کے داخلہ فارم میں شامل نہیں ہے۔

24- حضرت مولانا عبدالمالک خاں صاحب ناظر اصلاح و ارشاد، مجاہد افریقہ خطابت کے شاہسوار، مشفق ہستی تھے جنہیں حق تعالیٰ نے فنا فی الخلافت کی خلعت سے نوازا تھا۔ اس ناچیز اور لاشئ محض سے آپ کو محض اللہ محبت تھی۔ حضرت مولانا نے ملک کے طول و عرض میں کئی تبلیغی سفروں میں مجھے رفاقت کا شرف بخشا جن کی یادیں میرے لوحِ قلب پر ہمیشہ کے لیے نقش ہیں جو میرے لیے سرمایہ حیات کی حیثیت رکھتی ہیں آہ!!

یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا
ہم محو جرس کارواں رہے

یہ عاجز دفتری کام میں مصروف تھا کہ یکا یک حضرت مولانا کی السلام علیکم کی آواز سنائی دی اور آپ ایک بار لیش بزرگ کے ساتھ کمرہ شعبہ تارتخ میں تشریف لائے اور فرمایا میں انہیں تم سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے معزز مہمان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ کوئی ایک مختصر سی بات سنا دیجیے۔ میں نے ان بزرگ پر نگاہ ڈالی تو حق تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ یہ سیال شریف والوں کے مرید ہیں مگر ہیں بہت شریف مزاج۔ یہ ذہن میں آتے ہی خاکسار نے عرض کیا خدا کے فضل و کرم سے آپ بھی آنحضرت ﷺ کو احمد یقین کرتے ہیں لہذا میری ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اپنے تئیں ہمیشہ احمدی کہا کریں۔ جھٹ بولے میں احمدی تو ہوں مرزائی ہرگز نہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے انیسویں صدی کے نامور چشتی بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین سیال شریف کے حسب ذیل ارشادات و ملفوظات عالیہ اُن کے مطالعہ کے لیے سامنے رکھ دیئے۔ ان میں لکھا تھا:

”آپ کے پوتے صاحب زادہ محمد امین صاحب آئے۔ آپ

نے پوچھا اے بیٹے کون سی سورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا سورتِ نور۔

آپ نے تبسم فرماتے ہوئے یہ شعر۔

صورتِ مرزے یارِ دی ساری سورتِ نور

والشمس ، والضحیٰ پڑھیا رب غفور

بندہ نے عرض کیا مرزا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا۔ رسولِ خدا اور تینوں مذکورہ سورتیں آپ کی

شان میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا۔ عاشقوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے معشوق کو مرزایا رانجھا کہہ کر یاد کرتے ہیں۔“

(مرءة العاشقین صفحہ ۲۷۲ مرتبہ سید محمد سعید اسلامک بک فاؤنڈیشن۔ ناشر المعارف گنج بخش روڈ لاہور ۱۹۷۷ء)

وہ بزرگ یہ عبارت پڑھتے ہی پورے جوش سے فرمانے لگے۔ آج سے میں احمدی بھی

ہوں اور مرزائی بھی اور ساتھ ہی بتایا کہ میرا مسلک چشتی ہے اور میں سیال شریف سے تعلق ارادت رکھتا ہوں۔

25- ۳ اپریل سے ۳۱ مئی ۱۹۹۰ء تک میں اپنے دوسرے آٹھ اسیران راہ مولیٰ کے ساتھ گوجرانوالہ سنٹرل جیل میں رہا۔ ہمیں پہلے روز قید خانہ کے ایک وسیع کمرہ میں رکھا گیا جو قیدیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں جو صاحب نمازیں پڑھاتے ہیں وہ غالباً تیسری چوتھی بار انہما کے کیس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم احمدیوں نے الگ نماز پڑھی اور پھر مختلف تبلیغی مسائل پر گفتگو کرنے لگے۔ ایک شریف النفس اہل حدیث نوجوان میرے قریب بیٹھا نہایت عقیدت سے میری باتیں سن رہا تھا کہ یکا یک اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس جرم کی پاداش میں یہاں بچنے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ اپنے اہم سوال کے جواب سے پہلے مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بدیہ نعت کے چند اشعار سناؤں۔ نوجوان نے کہا بڑے شوق سے۔ جس پر خاکسار نے یہ نظم خوش الحانی سے پڑھی:

مولا میری بگڑی ہوئی تقدیر بنانے والے
 فرش سے عرش تک جلوہ دکھانے والے
 تیرے احسانوں کا ہو شکر ، بھلا کیسے ادا
 ہم غریبوں کو محمد سے ملانے والے
 ارضِ یثرب تیری عظمت پہ ہیں افلاک جھکے
 شاہِ لولاک کو سینے پہ بسانے والے
 اک نظر شاہد تشنہ کی طرف بھی آقا
 آبِ کوثر سے بھرے جام پلانے والے

یہ شعر پڑھنے کے بعد میں نے نوجوان کو بتلایا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کے خلاف گوجرانوالہ کے علماء صاحبان نے ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ یہ سب گستاخ رسول ہیں۔ انہیں پھانسی کے تختہ پر لٹکا دینا چاہیے۔

رقیبوں نے ریٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں
 کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں
 (اکبر الہ آبادی)

26- کسی علمی مجلس میں ایک بریلوی بزرگ نے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ“ کہنے کی نسبت تمہارا کیا نظریہ ہے۔ خاکسار نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ کو حاضر ناظر سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے باطنی عشق و فدائیت کے اظہار کے لیے ”یا رسول اللہ“ کہنا ہمیشہ عشاق رسول کی پہچان رہی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی فارسی نعت میں گیارہ بار ”یا رسول اللہ“ کے الفاظ ردیف میں استعمال فرمائے ہیں۔ ان کی شہرہ آفاق نعت کا مقطع یہ ہے ۔

چوں بازوئے شفاعت راکشائی بر گناہگاراں
مکن محروم جامی را در آں یا رسول اللہ

فداک ابی و امی یا رسول اللہ ﷺ

27- جماعت احمدیہ کراچی کے زیر اہتمام مارٹن روڈ میں ایک جلسہ عام خلافت رابعہ کے عہد میں منعقد ہوا۔ خاکسار کی تقریر کے دوران ایک اہلحدیث فاضل کی مجھے یہ چٹ پہنچی کہ تم نے حدیث ”لولاک لماخلقت الافلاک“ سنائی ہے۔ صحاح ستہ میں اس کا حوالہ بھی پبلک کو بتا دیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ہر مسلمان کو آنحضرت ﷺ کے ہر ارشاد کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ (وَمَا تَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الْحَشْرُ: ۸، أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ آل عمران: ۱۳۲) میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ جلشانہ نے کہیں یہ بھی قید لگائی ہے کہ مسلمانو حدیث وہی ماننا جو آنحضرت ﷺ کے کئی سو برس بعد صحاح ستہ میں درج ہو اور اگر اولیاء امت اور بزرگان اسلام کی کتابوں میں درج ہو تو اسے تحارت سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا؟

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس حدیث کے مضمون کی ایسی تصدیق فرمائی ہے کہ دن چڑھا دیا ہے۔ چنانچہ سورہ نجم میں ”دَنَا فَتَدَلَّى۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ“ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو خدا سے کامل قرب کی وجہ سے دو قوسوں میں وتر قرار دیا گیا ہے۔ قوس عربی نعت میں کمان کو کہتے ہیں۔ جب دو قوسیں اکٹھی کر دی جائیں تو مکمل دائرہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جیومیٹری کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب تک مرکزی نقطہ فرض نہ کیا جائے دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ پس جب دائرہ کائنات کے آنحضرت ہی نقطہ مرکزیہ قرار پائے تو حدیث لولاک لماخلقت الافلاک۔ کا کوئی سچا مسلمان کیونکر منکر ہو سکتا ہے۔

ع ایں چه بو العجی است

28- خاکسار ایک بار چند خدام کے ساتھ راجہ بازار راولپنڈی کے ایک دیوبندی کتب خانہ پر گیا اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی (وفات ۱۸۸۰ء) کی عظمتِ شان اور جلالتِ مرتبت کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی تصانیف حاصل کرنے کی درخواست کی۔ کتب خانہ کے مہتمم ایک عالم دین تھے۔ جنہوں نے سب موجود کتب میرے سامنے رکھ دیں جن میں سے میں نے چند انتخاب کر کے اُن کی منہ مانگی قیمت ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت مولانا قاسم سے اخلاص و عقیدت کے باعث انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو نہایت محبت سے چائے پلائی۔ حالانکہ میں نے سلام کے بعد یہ واضح کر دیا تھا کہ میں ربوہ سے حاضر ہوا ہوں اور میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ واپسی پر مہتمم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی کتاب ”تخذیر الناس“ (جو انہی سے چند منٹ قبل خریدی تھی) کھول کر سامنے رکھ دی اور انہیں یقین دلایا کہ ”ختم نبوت“ سے متعلق جماعت احمدیہ کا وہی مسلک ہے ایک صدی قبل حضرت مولانا نے پیش کیا تھا۔ یعنی آیت خاتم النبیین کے معنی ”آخری نبی“ عوام کرتے ہیں اور اصل مفہوم اس منصبِ عالی کا یہ ہے کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین نبیوں کے بھی باپ ہیں۔ اس لیے آپ کے بعد امت میں کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ نیز آئمہ اہل سنت کے نزدیک بھی اب جو نبی آئے گا فقط شریعتِ محمدیہ کی اشاعت کے لیے آئے گا۔

خاکسار نے مری روڈ کی بیت الذکر میں پہنچ کر خدام سے کہا کہ آپ کو شکایت تھی کہ راولپنڈی کے علماء متعصب ہیں جو کوئی کلمہ حق نہیں سنتے لیکن اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں بعض ایسے شریف علماء بھی موجود ہیں جو نہ صرف ربوہ سے آنے والوں کو چائے پلاتے بلکہ ”ختم نبوت“ جیسے حساس موضوع پر نہایت غور سے ہماری بات بھی سنتے ہیں۔ ضرورت قرآنی حکم کے مطابق حکمت اور موعظہٴ حسنہ کی ہے۔

29- ”تاریخ احمدیت“ کی تیسری جلد کی نفیس کتابت جناب شاہ محمد صاحب خوشنویس (مقیم چھانگا مانگا ضلع لاہور) کی مرہون منت ہے۔ خاکسار ۱۹۵۹ء کے آخر میں کتابت کا جائزہ لینے کے لیے اُن کے پاس گیا۔ آپ کی قیام گاہ کے قریب معزز بریلوی دوستوں کی مسجد تھی جہاں اگلے دن نماز فجر کے بعد ایک ”رضوی“ عالم نے ”وعظ شریف“ فرمایا کہ محبوبِ خدا آنحضرت ﷺ مع

ازواج و اولاد کے روضہ مبارک میں زندہ موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا جگر پارہ پارہ ہو گیا اور جو نبی یہ ”خطاب“ ختم ہوا، میں مسجد کے اندر چلا گیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت ادب سے عرض کی کہ کیا آپ ہی نے ابھی روضہ مبارک میں آنحضورؐ کے مع ازواج کے زندہ ہونے کا ذکر کر کے اسے آنحضورؐ کا معجزہ قرار دیا ہے اور اسی سے آپ کی سب نبیوں پر فضیلت ثابت کی ہے۔ جواب دیا بالکل یہی میرا عقیدہ ہے اور اس پر ہم سب اہل سنت قائم ہیں۔ خاکسار نے سوال کیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ جتنی جگہ میں مع خاندان کے زندہ دفن کر دیا جائے اور اوپر ایک گنبد خضرا بھی بنا دیا جائے تو آپ اسے خدا کا بہت بڑا انعام سمجھیں گے یا اسے سزا سے تعبیر کریں گے؟ علامہ یہ بات سنتے ہی اپنے حواریوں سمیت اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تیزی سے مسجد سے باہر نکل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظر سے اوجھل ہو گئے۔

30- حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیؒ کے زمانہ خلافت کے پہلے سال کا واقعہ ہے کہ اخویم محترم

جناب شیخ محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ امیر جماعت احمدیہ کوئٹہ کی درخواست پر حضور نے مجھے کوئٹہ بھجوایا جہاں خدا کے فضل و کرم سے کئی روز تک دعوتِ حق کا سلسلہ کامیابی سے جاری رہا۔ ایک ضیافت میں کوئٹہ کے ایک وکیل بھی تشریف لائے اور ”خاتم النبیین“ کے لغوی معنی دریافت کیا۔ عاجز نے بتلایا کہ عربی زبان میں زیر اور زبر کے فرق سے مفہوم ہی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً عالم جہان کو کہتے ہیں مگر عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ اسی طرح اہل عرب کے یہاں ختم کرنے کے لیے خاتم کا لفظ مستعمل ہے۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ اور کالجوں اور مدرسوں کے سرٹیفکیٹوں پر خاتم الکلیہ یا خاتم المدرسہ ضرور لکھا ہوتا ہے۔ خود ہماری ہائی کورٹوں بلکہ سپریم کورٹ تک بعض اوقات اپنے فیصلہ کے بعد میں اس عبارت کا اضافہ کرتی ہیں۔

”مہر عدالت سے جاری ہوا“

کبھی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلہ میں آپ نے یہ الفاظ بھی

پڑھے ہیں کہ:

”مہر عدالت سے بند ہوا“

جناب وکیل کہنے لگے بس میں سمجھ گیا کہ آنحضرت ﷺ نبیوں کی مہر ہیں۔ ایسی مہر جس سے فیضان نبوت بند نہیں ہوتا بلکہ جاری ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا اب آنجناب آسانی اس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ آج احمدی ہی ہیں جو خاتمیت محمدی پر دلی ایمان رکھتے ہیں۔

31- ایک دفعہ دوران مذاکرہ اس سوال پر بہت زور دیا گیا کہ سب نبی اُمی ہوتے ہیں مگر مرزا صاحب نے تو اپنے اساتذہ کا خود اعتراف کیا ہے۔ سائل کے دوسرے رفقاء کو بھی فقط اسی اعتراض سے طبعی دلچسپی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک عاشق رسول کے لیے یہ انکشاف نہایت درجہ خوشی کا موجب ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے سوائے ہمارے نبی، نبیوں کے شہنشاہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے، کسی نبی کو لفظ ”خاتم النبیین“ کا خطاب دیا ہے نہ ”نبی امی“ کا (اعراف: ۱۵۸) پس ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ آنحضرت ﷺ کا مخصوص آسمانی خطاب حضور سے چھین کر نہایت بے دردی سے تمام نبیوں میں بانٹ دیں۔ یہ غیرت رسول اور عشق رسول کے سراسر منافی بات ہے جس کی کم از کم آپ سے مجھے قطعاً توقع نہیں تھی۔ بعد ازاں جب انہیں سورہ کہف کی آیت ۶۶، ۶۷ سنائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے شارع نبی نے ایک بندہ خدا کا شاگرد بننے کی خود درخواست کی تو خدا کے فضل و کرم سے وہ پوری طرح مطمئن ہو کر مجلس سے گئے۔

امّ المؤمنین:

32- ایک عالم دین تحقیق حق کے لیے ربوہ تشریف لائے۔ اُن کا واحد اعتراض یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب کے کشف بابت حضرت فاطمہؓ وغیرہ سے اہل بیت علیہم السلام کی سخت توہین ہوتی ہے۔ اس گستاخی کو نوے کروڑ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے گزارش کی کہ یہ کشف تو حضرت بانی سلسلہ عالیہ کے عاشق رسول ہونے پر فیصلہ کن آسمانی شہادت ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان الفقر حضرت سلطان باہو جیسے اہل کشف پاک نفس بزرگ اور ولی کامل اپنے مشاہدات کی بناء پر تحریر فرماتے ہیں:

”مشق وجودیہ کی پاکی اور برکت سے مجلس حضرت محمد

رسول اللہ ﷺ میں ایک نوری طفل معصوم کی شکل میں حاضر ہو جاتا

ہے۔ حضرت محمد ﷺ کمال لطف، شفقت اور مرحمت سے اس نوری بچے کو اپنے اہل بیت پاک میں جناب امہات المؤمنین حضور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن کے سامنے لے جاتے ہیں۔ وہاں ہر ایک ام المؤمنین سے اپنا فرزند کہتی ہیں اور اپنا نوری دودھ پلاتی ہیں اور وہ شیر خوار اہل بیت خاص ہو جاتا ہے اور اس کا نام فرزندِ حضور اور خطابِ فرزندِ نوری ہو جاتا ہے۔“

پھر اپنے روحانی مشاہدہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ”حضرت سرور کائنات ﷺ اس فقیر کو باطن میں اپنے حرم محترم کے اندر کمال شفقت اور مرحمت سے لے گئے اور حضرت امہات المؤمنین حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن نے اس فقیر کو دودھ پلایا اور آنحضرت ﷺ اور امہات المؤمنین نے مجھے اپنے نوری حضور فرزند کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔“ (حق نمائے اردو ترجمہ نور الہدیٰ صفحہ ۲۲۲، ۲۲۵ طبع پنجم مقام اشاعت کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان)

33- خاکسار کا ایک مضمون خلافتِ رابعہ کے اوائل ہی میں ”الفضل“ کی ایک اشاعت میں چھپا جو حضرت مصلح موعود کی بیان فرمودہ ایک خواب کا اقتباس پر مشتمل تھا۔ خواب میں ”ام المؤمنین“ کا لفظ بھی تھا جس پر مجھے ربوہ کی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تھانہ کے ایک کانٹھیل صاحب مجھے دیکھتے ہی سخت غضبناک تھے کہ تم نے اپنے مضمون میں ”ام المؤمنین“ کی اصطلاح مرزا صاحب کی اہلیہ کے لیے کیوں لکھی ہے۔ ہم مسلمان اس سے مشتعل ہیں۔ میں نے انہیں بتلایا کہ یہ خواب جس میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے ہمارے امام دوم حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہے جو بہشتی مقبرہ میں آسودہ خاک ہیں۔ دوسرے یاد رکھئے ”ام المؤمنین“ کا فارسی ترجمہ ”مادِ ملت“ ہے جس سے ہم سب محترمہ مس فاطمہ جناح صاحبہ کو یاد کرتے ہیں حالانکہ وہ حضرت قائد اعظم کی بہن تھیں اور انہیں ”پھوپھیِ ملت“ کہنا چاہیے۔ کانٹھیل صاحب ہکا بکارہ گئے اور میں بھی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی کی دعا کے طفیل چند گھنٹے اسیر حوالات رہنے کے بعد قصرِ خلافت میں پہنچ گیا۔ حضور نے مجھے دیکھتے ہی کمال محبت و شفقت سے ارشاد فرمایا کہ کچھلی نمازوں میں تمہیں نہ پا کر غم رسیدہ ہو گیا تھا۔

ع کیا طبیعت ہے بادشاہوں کی

(آئمہ اہل بیتؑ، صحابہ نبویؐ، خلفاء اور مجدد دیت)

آئمہ اہل بیت:

34- اکتوبر ۱۹۸۱ء میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کراچی (ڈیفنس سوسائٹی) میں رونق افروز تھے کہ مجھے فوراً بذریعہ جہاز پہنچنے کا ارشاد ہوا۔ دراصل ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی صدر ضیاء الحق سے ملاقات مقرر تھی اور انہیں بعض حوالے درکار تھے جو میں نے پیش کر دیئے۔ انہی ایام کا واقعہ ہے کہ کراچی کے ایک نامور شیعہ رہنما جناب محمد وصی خاں صاحب (صدر مرکزی تنظیم عزا۔ شیعہ ماتمی انجمنوں کی فیڈریشن) نے خلیفہ راشد سے شرف ملاقات حاصل کیا۔

دراصل انہیں تاریخ پاکستان کے تعلق میں کچھ مواد مطلوب تھا۔ حضور انور نے انہیں اپنے اس ادنیٰ غلام سے ملنے کے لیے ہدایت فرمائی۔ جناب محمد وصی خاں صاحب نے ابتدائی گفتگو کے بعد سوال کیا کہ آپ لوگوں کا آئمہ اہل بیت کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ میں نے جواب میں حضرت مسیح موعود کا ایک فارسی شعر پڑھ کر دعویٰ کیا کہ آئمہ اہل بیت کی حقیقی محبت و شیفتگی کا جھنڈا خدا نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم ماتم نہیں کرتے اس لیے کہ قرآن نے شہدا کو زندہ قرار دیا ہے۔ مسیح الزماں کا عارفانہ شعر یہ ہے:

جان و دلم فدائے جمال محمد است
خاکم نثار کوچہ آل محمد است

میری جان و دل جمال محمد پر قربان ہے۔ میری خاک آل محمد کی گلی پر بھی نثار ہے۔ میں نے کہا یہ کلام کسی ذاکر یا مجتہد کا نہیں، اس شخصیت کا ہے جسے امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر تمام عشاق اہل بیت کے اقوال ایک پلڑے میں اور حضرت کا یہ شعر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو بفضلہ تعالیٰ مہدی موعود کا پلڑہ ہی بھاری ثابت ہوگا۔ ازاں بعد میں نے انہیں بتایا کہ آپ

بے چاروں کو تو ماتم حسین اور تعزیہ داری اور سینہ کوبی کرنے سے ہی فرصت نہیں۔ اس کے مقابل جماعت احمدیہ کے پیش نظر عالمگیر غلبہ دین اور غیر مسلموں کے حملوں کا جواب ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی مناظروں میں عیسائی مشنریوں اور آریہ سماجیوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ درود شریف میں کما صلیت علی ابراہیم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو برکتیں حضرت ابراہیمؑ کو ملیں وہ آپ کے نبی کو عطا نہیں ہوئیں۔ فرمائیے آپ حضرات کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ حضرات سینہ کوبی اور خونی ماتم سے دشمنان اسلام کی تسلی نہیں کر سکتے بلکہ وہ الٹا اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ بڑے پروقار انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ سوال سنتے ہی ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور لرزتے ہونٹوں اور کانپتی زبان سے یہ برملا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس سوال کا ذکر تک ہمارے ذاکروں، مجتہدوں اور شعرائے اہل بیت نے کبھی نہیں کیا۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی معقول جواب ہوگا۔ خاکسار نے بتایا کہ اگرچہ اس سوال کا عدوان محمدؐ کے لیے کوئی مسکت جواب گزشتہ چودہ سو سالہ لٹریچر میں میری نظر میں نہیں گزرا مگر ہمارے امام عالی مقام خلیفہ موعود مصلح موعود نے اس سلسلہ میں خاص ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے لطیف اور پر معارف جواب کا ایک اقتباس سنئے:

”حضرت ابراہیمؑ نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك (۲-۱۲۱)

کہ میری اور اسمعیلؑ کی اولاد سے امت مسلمہ پیدا کر دے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان کو امت مسلمہ ملے۔ مگر خدا تعالیٰ اس دعا کو اس رنگ میں قبول کرتا ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت پیدا کریں گے۔ گویا حضرت ابراہیمؑ نے خدا تعالیٰ سے جو مانگا اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ نے دیا..... انہوں نے مانگے مسلم اور ملے نبی۔ اب یہی بات رسول کریم ﷺ کے متعلق سمجھو اور درود کے یہ معنی کرو کہ خدا یا جو معاملہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا، وہی محمد ﷺ سے کرنا۔ یعنی

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا اس سے بڑھ کر ان کو دیا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ ﷺ نے جو مانگا اس سے بڑھ کر ان کو دینا۔

اب درجہ کے لحاظ سے فرق یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں اور رسول کریم ﷺ نے اپنے عرفان کے مطابق۔ کیونکہ جتنی جتنی معرفت ہوتی ہے اس کے مطابق مطالبہ کیا جاتا ہے..... جب رسول کریم ﷺ عرفان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھے ہوئے تھے تو یقینی بات ہے کہ آپ کی دعائیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بڑھی ہوئی ہوں گی۔

پس درود میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ الہی حضرت ابراہیم نے آپ سے جو مانگا انہیں آپ نے اس سے بڑھ کر دیا۔ اب محمد ﷺ نے جو مانگا انہیں بھی مانگنے سے بڑھ کر عطا کیجئے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم کو ملا، محمد ﷺ کو اس سے بڑھ کر دیا جائے اور وہ چیز جس کے لیے حضرت ابراہیم سے بڑھ کر رسول کریم ﷺ کو دینے کی دعا کی گئی ہے یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے امت مسلمہ مانگی۔ ان کی نسل میں نبوت قائم کر دی گئی۔ رسول کریم ﷺ نے اپنی امت کے لیے ان سے بڑھ کر دعا کی۔ اس لیے آپ کی امت کو ان کی امت سے بڑھ کر نعمت دی جائے۔ اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے درود کو دیکھو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنے عظیم الشان مدارج کے حصول کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔“

اس جواب سے جناب محمد وصی خان صاحب از حد متاثر ہوئے۔ ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ تھا اور انہوں نے عقیدت بھرے جذبات سے مجھے جناب سید حکیم مقبول احمد صاحب دہلوی کا قرآن مجید مترجم کا ہدیہ دیا اور صفحہ اول پر حسب ذیل الفاظ تحریر فرمائے:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

پیارے بزرگ اور محقق العصر عالی جناب دوست محمد شاہد صاحب

قبلہ کی خدمت میں۔

ایک طالب علم کا تحفہ قبول فرما کر عزت افزائی فرمائیں۔ خادم محمد

وصی خاں ۱۰/۸/۲۷- صدر مرکزی تنظیم عزار جسٹریٹ شیعہ ماتمی انجمنوں کی

فیڈریشن 372/E پاکستان کوارٹرنسٹروڈ کراچی۔“

35- مرحوم ڈاکٹر راجہ نذیر احمد صاحب بانی ”کیوریٹوسٹم“ ربوہ کا شمار بہت پر جوش

داعیان الی اللہ میں ہوتا ہے۔ ایک بار انہوں نے ایک شیعہ کا لجنیٹ کو میرے دفتر میں بغرض معلومات

بھجوایا۔ اس شریف النفس نوجوان نے صرف یہ درخواست کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں۔ میں

نے کہا کہ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ سب شیعہ اصحاب محبان اہل بیت بن جائیں۔ اس بات

سے گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پریشان خاطر ہو کر کہا کہ میں تو اثناعشری ہوں اور حب اہل بیت ہی

تو ہمارا مذہب ہے۔ میں نے مستند شیعہ لٹریچر ان کے سامنے رکھا جس سے یہ حقیقت کھلتی تھی کہ دشت

کر بلا میں حضرت سید الشہداء امام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا ان میں حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ

علیہ السلام کے ایک لخت جگر کا نام عمر اور ایک کا عثمان تھا۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے

ایک صاحبزادے ابو بکر تھے جنہوں نے دشت کر بلا میں خون کے نذرانے پیش کیے۔ (بجاء الانوار جلد

۴۵ صفحہ ۶۲، ۶۳ تالیف شیخ باقر مجلسی مطبوعہ بیروت ۱۹۸۳ء) یہ تاریخی اور دستاویزی حقائق پیش کر کے

میں نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ کیا آپ حضرات کبھی اپنے بیٹوں کے نام مختار ثقفی، یزید یا شمر

رکھتے ہیں۔ کہنے لگے معاذ اللہ ہرگز نہیں۔ اولاد کو اپنے بزرگوں سے معنون (DEDICATE) کیا

جاتا ہے۔ میں نے اس کی پُر زور تائید کرتے ہوئے کہا کہ ثابت ہوا کہ اہل بیت کے نزدیک خلفائے ثلاثہ

بہت بزرگ شخصیتیں تھیں لہذا وہی شخص محبت اہل بیت تسلیم کیا جاسکتا ہے جو ان سے عقیدت رکھے۔

36- کلرک ہار (ضلع چکوال) میں جماعت احمدیہ کا ایک پبلک جلسہ ہوا جس میں عاجز نے

”سیرت النبی“ پر تقریر کی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک صاحب کا رقعہ ملا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراءؓ کو باغ فدک کے ورثہ رسول سے محروم کر کے ظلم عظیم کیا۔ میں نے پہلے تو اصولی جواب دیا کہ خود آنحضرتؐ نے فرما دیا تھا کہ میری کوئی وراثت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی آنحضرتؐ کے اس فیصلہ کی تعمیل فرمائی۔ ازاں بعد میں نے معزز شیعہ بھائیوں کی خدمت میں پیشکش کی کہ آپ بزرگ فدک کے باغ اور اُس کی کھجوروں تک کی قیمت کا تخمینہ دیں اور ہم احمدیوں سے وصول فرمائیں اور خدا کے لیے دنیا بھر کے دوسرے مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔

میری اس تجویز پر پبلک پرسناٹا چھا گیا اور سنی مسلمان تو فرط مسرت سے گویا جھوم گئے۔

37- میں ابھی مدرسہ احمدیہ کی ابتدائی کلاسوں میں زیر تعلیم تھا کہ موسمی تعطیلات میں اپنے

وطن پنڈی بھٹیاں آیا۔ میرے والد حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب کو تبلیغ کا جنون تھا۔ آپ مجھے ایک شیعہ رشتہ دار فضل حسین صاحب کے پاس لے گئے۔ یہ صاحب شہر میں تعزیرہ داری کے معاملہ میں مشہور تھے۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی بات کرتے میں نے اُن سے سوال کیا کہ شیعہ لٹریچر کی رو سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت ابو بکر صدیقؓ ”خلیفۃ الرسول کی بیعت کرنا ثابت ہے۔ آپ بھی اسوۃ مرتضوی کے مطابق اُن کی خلافت پر ایمان لے آئیں۔ فرمانے لگے شیر خدا نے بیعت ضرور کی ہوگی مگر تقیہ کے ساتھ۔ اس پر میں نے اُن سے پوچھا تقیہ شرعاً جائز ہے؟ حرام ہے؟ فرض ہے یا واجب؟ جواب دیا واجب (یعنی جس کا تارک گنہگار ہو جاتا ہے) میں نے اس خیال کے سلسلہ میں مزید وضاحت طلب کی کہ جب تقیہ شرعاً واجب ہے تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کرنے کی بجائے میدان کربلا میں خاندان نبوت کے ۷۲ افراد سمیت جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ سنتے ہی وہ بدحواس سے ہو گئے اور فرمانے لگے دراصل تقیہ حرام ہے۔ اس پر میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ”اگر تقیہ حرام ہے تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت صدیقؓ کر کے معاذ اللہ حرام کام کیوں کیا؟ حضرت والد صاحب مرحوم فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے ساتھ لے کر واپس گھر آ گئے۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔

صحابہ نبوی:

38- میں بعض احمدی نوجوان کی رفاقت میں ربوہ سے بذریعہ ریل لاہور جا رہا تھا کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک احمدی نوجوان نے دریافت کیا کہ ہم حضرت علی خلیفہ رسول کے لیے بھی رضی اللہ کی دعا کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی۔ حالانکہ مؤخر الذکر خلافتِ رابعہ کے منکر بلکہ مخالف تھے۔ اس دلچسپ سوال پر میں نے عزیز سے پوچھا کہ آپ نے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ان کی زیارت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں سید الشہد حضرت امام حسین علیہ السلام کے برادر اکبر حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر انہیں رضی اللہ کی دعا کا مستحق بنا دیا۔ اب میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟

39- ۱۹۸۵ء میں یہ عاجز حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی ذرہ نوازی سے صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے نمائندہ کے طور پر جلسہ انگلستان میں شامل ہوا۔ جس کے بعد ملک کی مختلف جماعتوں کے جلسوں اور مجالس سوال و جواب میں شرکت کا موقع میسر آیا۔ جن کی رپورٹوں پر حضور نے اپنے قلم مبارک سے از حد مسرت اور خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ مجھے یاد ہے بریڈ فورڈ کی ایک مجلس سوال و جواب میں ایک شیعہ دوست نے سوال کیا کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰؑ کی نسبت اعلان فرمایا "من کنت مولاه فعلی مولاه" جس کا میں مولانا ہوں علی بھی اس کا مولیٰ ہے۔ ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ ہی خلیفہ بلا فصل تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات اپنے فاضل علماء کو مولانا کے لقب سے یاد کرتے ہیں تو کیا انہیں خلیفہ بلا فصل بھی کہتے ہیں؟ دوسرے "بخاری" کی دوسری حدیث میں اس واقعہ کا بالواسطہ طور پر یہ پس منظر موجود ہے کہ جب حضرت علیؑ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا تو آنحضرت ﷺ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ رسول نے بھی اُن کا بائیکاٹ کر دیا۔ جس کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے میدانِ عرفات میں خطبہ کی بجائے واپسی پر ۱۵ مارچ ۶۲۲ء کو جبکہ صرف صحابہ ہی موجود تھے حضرت علیؑ کی معافی کا اعلان فرمایا اور ہدایت فرمائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرنا چاہئے۔

ع اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا

سوال یہ ہے کہ اگر یہ خلافت بلائفصل کا شاہی اعلان تھا تو ہمارے شیعہ بھائی ”حدیث قرطاس“ کا سوال کیوں اٹھاتے ہیں۔ جبکہ یہ معاملہ تو کئی ماہ قبل نیویں کے شہنشاہ غم غدیر کے موقع پر ہزاروں صحابہ میں رونق افروز ہو کر طے فرما چکے تھے۔

خلفا اور مجددیت:

40- دور خلافت ثالثہ میں خاکسار نے حیدرآباد سندھ کے ایک اجتماع میں شرکت کی جہاں یہ سوال بڑے زور شور اور شد و مد سے اٹھایا گیا کہ کیا خلیفہ راشد کی موجودگی میں مجدد آسکتا ہے؟ میں نے نونہالان احمدیت سے سوال کیا کہ فرض کیجئے اگر تیرہ صدیوں کے مجدد ایک میدان میں جمع ہوں عین نماز کے وقت ایک صحابی رسولؐ بھی تشریف لے آئیں تو فرمائیے امامت کے مستحق کون قرار پائیں گے۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں ”صحابی رسول“۔ میں نے اس امر کو نکتہ آغاز بناتے ہوئے استدلال کیا کہ ثابت ہوا کہ تمام مجددین امت سے صحابی رسول کا مقام افضل ہے۔ اب ذرا تاریخ اسلام دیکھئے۔ تمام مؤرخین اس واقعہ پر متفق ہیں کہ صحابہ چاہتے تھے کہ وصال نبوی کے بعد مدینہ کا ماحول پُر خطر ہے اس لیے مدینہ الرسول سے شام کے لیے کوئی لشکر نہ بھجوا یا جائے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے تاجدار خلافت کی حیثیت سے تمام صحابہ کا یہ مطالبہ یکسر رد کر دیا جس پر جملہ صحابہ نے بلاتامل پوری بشارت سے لبیک کہا اور خدا تعالیٰ نے بھی عساکر اسلام کو فتح مبین عطا کر کے اپنی خوشنودی کی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یہ ہے جملہ مجددین کے مقابل خلیفہ راشد کی شانِ عظیم۔

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ نے انہی دنوں خاص اسی موضوع پر سالانہ اجتماع انصار اللہ مرکزیہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سب مبلغین احمدیت اپنے اپنے حلقہ میں مجدد ہی ہیں۔ اسی طرح قیامت تک لاکھوں کروڑوں بلکہ بے شمار مجدد پیدا ہوں گے۔ مگر ہوں گے خلیفہ وقت کے خادم اور عاشق!!

(حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام)

41- 1985ء میں جماعت احمدیہ بریڈ فورڈ (انگلستان) نے ایک مجلس سوال و جواب کا اہتمام کیا جو ہر اعتبار سے کامیاب اور پُر جہوم تھی۔ اس موقع پر ایک اہل حدیث بزرگ نے بھی دو سوال کئے۔
 اول: حضرت مسیح ناصری کی شادی کا ذکر قرآن مجید سے دکھائیے۔
 دوم: حدیث نبوی سے قبر مسیح کا ثبوت پیش کیا جائے۔

خاکسار نے پہلے سوال کے جواب میں سورہ الحدید کے آخری رکوع کی آیت نمبر 28 پیش کی جس میں اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا کہ رہبانیت (یعنی شادی نہ کرنا) ایک بدعت ہے جس کا آغاز معاذ اللہ حضرت مسیح موعود ناصری نے نہیں کیا بلکہ آپ کے بعد نام نہاد مسیحوں نے کیا۔ اگر حضرت مسیح ناصری عمر بھر واقعی مجرد رہے تو خدا تعالیٰ کو تو شاباش دینی چاہیے تھی کہ تم نے خوب اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا مگر اسکی بجائے اعلان عام کیا جاتا ہے رہبانیت بدعت تھی جو سنت نبی کے خلاف تھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ مسیح یقیناً شادی شدہ تھے۔

دوسرے سوال کے جواب میں عاجز نے ”بخاری کتاب الصلوٰۃ“ حدیث 421-422 پڑھی کہ یہود اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصاریٰ دونوں پر لعنت کی۔ اب سوچئے نصاریٰ کا تو ایک ہی نبی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت مسیح کی قبر موجود ہے اور عیسائی اس کو مسجود بنا کر ملعون قرار پا چکے ہیں۔ صاف کھل گیا کہ مسیح علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کی تحقیق کی رُو سے کشمیر میں آسودہ خاک ہیں اور عہد حاضر کے مغربی سکارلز ہی نہیں، عرب و عجم کی متعدد بلند پایہ شخصیتوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔

42- 7 ستمبر 1974ء کے بدنام زمانہ فیصلہ کے کچھ عرصہ بعد فیصل آباد کے نامور بریلوی عالم دین مولوی سردار احمد صاحب دیال گڑھی کے بعض معتقد علماء بیت مبارک ربوہ میں استاذی المعظم حضرت

قاضی محمد نذیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو ایک فوری کام ہے اور خاکسار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ اس سے تبادلہ خیالات کر لیں۔ میں نے گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ آپ حضرات سے جماعت احمدیہ کا صرف اور صرف دو لفظی اختلاف ہے۔ انہوں نے حیرت زدہ ہو کے اسکی وضاحت چاہی جس پر میں نے عرض کیا کہ ہمارا اختلاف صرف لفظ ”توفی“ اور ”مع“ کے معنوں میں ہے جس کا فیصلہ کتاب اللہ سے لینا چاہیے۔ قرآنی دعا ہے ”وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ“۔ (آل عمران: 194) قرآن کا کتنا زبردست اعجاز ہے کہ اس نے ایک فقرہ میں دونوں متنازعہ لفظوں کو جمع کر کے دن چڑھا دیا ہے۔ فرمائیے کیا اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا نیکوں کے ساتھ ہمیں آسمان پر اٹھالے یا یہ کہ جب کوئی نیک بندہ مرنے لگے تو ساتھ ہی ہمارا ہارٹ بھی فیمل ہو جائے۔ اس استدلال نے انہیں بالکل لاجواب کر دیا اور ان کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ اس دعا کے صرف ایک ہی معنی ہیں کہ ہمیں نیکوں میں شامل کر کے وفات دے۔ اب انہوں نے ایک چالاک وکیل کی طرح پینترا بدلا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا ختم نبوت پر ایمان ہے؟ میں نے بتایا کہ خاتم النبیین پنجابی یا پشتو کا لفظ نہیں بلکہ فصیح و بلیغ عربی کلام ہے جو سورہ احزاب میں انکوٹھی کے نگینہ کی طرح چمک دمک رہا ہے اور آسمان کے بے شمار ستاروں کی طرح لا تعداد معنی کا سمندر اپنے اندر پنہاں رکھتا ہے (چنانچہ میں نے دسمبر 1977 کی تقریر جلسہ سالانہ ”تفسیر خاتم النبیین اور بزرگان سلف“ میں قدیم اسلامی لٹریچر سے بالبداہت ثابت کیا ہے کہ) اب تک صلحائے امت ”خاتم النبیین“ کے منفرد منصب و خطاب کے تیس معانی بیان فرما چکے ہیں جو ہر احمدی کو مسلم ہیں مگر ہم کوئی ایسا معنی برداشت نہیں کر سکتے جس سے یہودی امت کے نبی حضرت مسیح ناصری کو خاتم النبیین قرار دینا پڑے جیسا کہ آپ اصحاب کا عقیدہ ہے۔ یہ سنتے ہی ایک عالم دین نے فرمایا یہ ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں۔ خاکسار نے عرض کیا کہ اس دعویٰ کا ثبوت آپ ہی کی زبان مبارک سے مل جائے گا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ علمائے پاکستان نے اسمبلی سے یہ قانون پاس کر لیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں غیر مشروط آخری نبی۔ اب میں آپ حضرات ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک خدا کے نبی مسیح ناصری علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے؟ ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں مگر وہ آنحضرت ﷺ سے قبل کے نبی ہیں۔ میں نے وکیلانہ انداز میں اس پر جرح کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس میں کیا شک ہے کہ

حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہورِ قدسی سے صدیوں قبل نبی بنایا گیا مگر میرا اصل سوال یہ ہے کہ فرض کریں حضرت عیسیٰ ابھی دمشق منارۃ البیضاء پر نازل ہو جائیں قطع نظر اس کے کہ انہیں شناخت کون کرے گا کہ گیر وے کپڑوں میں ملبوس سچ مچ مسیح ناصری ہی ہیں یا کوئی شخص پیرا شوٹ سے چھلانگ لگا کر مینار کے پاس آ گیا ہے؟ پھر آپ اور میں مسلم دنیا کے کروڑوں مسلمان اسے بیک وقت آسمان سے نازل ہوتے ہوئے کس طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ فرض کیجیے مسیح علیہ السلام بیت المبارک ربوہ کے بیرونی صحن میں اتریں تو ہم جو اس وقت دفتر شعبہ تاریخ میں محو گفتگو ہیں، کیونکر زیارت کر سکیں گے؟ پھر حل طلب امر یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لا کر کون سی شریعت پھیلائیں گے؟ فرمانے لگے کہ قرآن۔ میں نے دریافت کیا کہ ان کا بیان اللہ جل شانہ نے سورہ مریم میں ریکارڈ کیا ہے کہ میں عمر بھر ”الکتاب“ یعنی انجیل کی منادی کروں گا۔ آپ کے نزدیک جب چھ سو سال بعد قرآن مجید کی تجلی قلبِ مصطفیٰ پر ہوئی وہ آسمان پر تھے۔ انہیں دنیا میں آ کر قرآن کا علم کیسے ہوگا؟ دو ہی صورتیں ہیں یا تو اللہ تعالیٰ براہ راست پورا قرآن دوبارہ ان پر بھی نازل کرے یا وہ آپ علماء کے شاگرد بن کر قرآن مجید سیکھیں مگر آپ کے نظریہ کے مطابق وحی کا دروازہ قیامت تک کے لئے بند ہے اور شاگردی شانِ نبوت کے منافی ہے۔ خدا ان باتوں پر خدا ترسی سے غور فرمائیں مگر یہ سب پہلو تو برسبیل تذکرہ ذکر ہوئے ہیں۔ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کی تشریف آوری کے بعد کوئی پرانا نبی آسکتا ہے؟ فرمانے لگے ہرگز نہیں۔ اور نیا نبی؟ کہنے لگے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ حضرات نے خود یہ اعتراف کر لیا ہے کہ آخری نبی ہمارے سید و مولیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہودی امت کے نبی ہیں جن کے بعد نہ کوئی پرانا نبی آسکتا ہے نہ نیا۔ پس میں آپ کو ”ختم نبوت“ کا منکر تو نہیں کہتا صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خاتم النبیین یقین کرتے ہیں اور ہم احمدی سید لولاک شہِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

43- قیام پاکستان کے بعد میرا پہلا اور آخری پبلک مناظرہ (DEBATE) 1951ء کے لگ بھگ بیداد پور (ضلع شیخوپورہ) میں ہوا جبکہ میری عمر قریباً چوبیس برس ہوگی۔ فریق ثانی کے مناظر حکیم

محمد اسحاق صاحب وزیر آبادی تھے جو ایک ماہنامہ غالباً ”اولی الامر“ کے ایڈیٹر بھی تھے۔ آپ ماشاء اللہ بہت لکیم و شیم اور فرہہ جسم کے تھے۔ ایک وسیع حویلی بغرض مباحثہ مختص کی گئی۔ گاؤں میں زیادہ تعداد سنی مسلمانوں کی تھی۔ استاذی المحترم خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب نے میرے استفسار پر ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے ہر مناظرہ سے پہلے حضرت مسیح پاک کا یہ دعائیہ شعر سجدہ میں نہایت تضرع اور گریہ وزاری سے پڑھا ہے۔

میرے سقم و عیب سے اب کبھی قطع نظر

تانہو خوش دشمن دیں جس پہ ہے لعنت کی مار

میں نے بھی نماز ظہر و عصر کے دوران سجدہ گاہ کو اس رقت بھری دعا کے ساتھ ترک کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں عاجزانہ التجا کی کہ تیرا وعدہ ہے کہ میں مسیح موعود کی نصرت کا ارادہ کرنے والوں کی بھی نصرت کروں گا۔ میں پہلی بار میدان میں قدم رکھ رہا ہوں۔ میں کم عمر اور بے علم اور نا تجربہ کار ہوں۔ اپنے پاک وعدہ کے مطابق مصلح موعود کے اس نالائق خادم کی تائید فرما۔ یہی دعا کرتے ہوئے میں چند احمدی بزرگوں کے جلو میں احاطہ میں داخل ہوا اور مقررہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حویلی سامعین سے بھری ہوئی تھی اور احمدی معدودے چند تھے۔ حکیم محمد اسحاق صاحب کی نظر جو نہی مجھ پر پڑی انہوں نے میرا قد اور کمزور جسد دیکھتے ہی خوب مذاق اڑایا اور فرمایا قادیانیو! کسی آدمی کو میرے مقابل پر لانا تھا۔ میں نے تو آپ کے چوٹی کے علماء کو میدانِ بحث میں لتاڑا اور پچھاڑا ہے اور شکست فاش دی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے اندر ایک غیبی جوش اور طاقت محسوس ہوئی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ابھی تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا۔ انشاء اللہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ ”اصحاب الفیل“ کون ہیں اور ”ابابیل“ کون؟ یہ سن کر پوری مجلس میں سنا سنا چھا گیا اور ان مخلص احمدیوں کی بھی جان میں جان آگئی جو مرکز کی طرف سے ایک نامی گرامی مناظر کے مقابلہ کے لئے ایک طالب علم بھجوانے پر میرے نارنگ اسٹیشن پہنچتے ہی برملا اپنی تشویش و اضطراب کا اظہار فرما چکے تھے لیکن اس پہلی لکار نے انہیں اتنا ضرور محسوس کرا دیا کہ اس ”بچہ“ میں بھی کچھ دم اور روح موجود ہے۔

میں نے جناب حکیم صاحب سے استفسار کیا کہ جناب کس موضوع پر بحث فرمائیں گے۔ ”مسئلہ حیات و وفات مسیح پر“ انہوں نے کڑک کر جواب دیا۔ میں نے بھی پورے جذبے اور جوش و خروش سے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسے بلند بانگ دعاوی کرنے والے ”عالم دین“ اور ”مناظر بے بدل“ کو اتنا بھی علم نہیں کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو کبھی آسمان پر تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے نہیں۔ میں نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں جاسکتا (واضح ہو کہ یہ 1951ء کی بات ہے جبکہ ابھی روس کے پہلے خلا نورد دیوری گیگارین نے پرواز نہیں کی تھی اور نہ امریکن خلا باز چاند کی سطح پر اتر سکے تھے۔ یہ دونوں واقعات بالترتیب اپریل 1961ء اور 20 جولائی 1969ء کے ہیں)

اب آگے سنئے۔ اس ماحول میں عاجز نے تمام سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ آسمان پر جانے والے صرف ایک ہی وجود ہیں یعنی محمد رسول اللہ ﷺ۔ آپ شبِ معراج میں ہفت افلاک سے گذر کر عرشِ عظیم تک پہنچے اور تمام نبیوں کو نہ صرف شرفِ زیارت بخشا بلکہ ان کی امامت بھی کرائی۔ میں نے احمدی بزرگوں سے دریافت کیا کہ کیا آنحضرت ﷺ کی اس غیبی شہادت پر آپ کامل ایمان رکھتے ہیں کہ سب نبی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ سبھی نے بیک زبان اقرار کیا کہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ آنحضورؐ کی شہادت برحق ہے۔ میں نے حاضرین سے کہا کہ جماعت احمدیہ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو آسمان پر زندہ یقین کرتی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ مسیحؑ ناصر بھی شامل ہیں لہذا یہ ہرگز کوئی متنازعہ امر نہیں کہلا سکتا۔ اصل اختلافی بحث یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی رو سے جملہ انبیاء اپنا جسم خاکی زمین میں چھوڑ کر آسمان تک پہنچے ہیں مگر جناب حکیم صاحب اور ان کے ہمنواؤں کا ادعا یہ ہے کہ آسمانوں پر باقی نبیوں کی تو واقعی روحوں تھیں مگر حضرت مسیحؑ کا جسدِ عنصری بھی تھا۔ اب اس کا فیصلہ دربارِ مصطفیٰ سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت شہ لولاکؑ ہی یعنی شاہد ہیں اور آنحضورؐ ہی آسمان پر تشریف لے گئے لہذا میں حکیم صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی مسلک کی مطبوعہ احادیث میں کوئی ایک اصل حدیث ہمیں دکھادیں جس میں خود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آسمان پر میں نے جملہ انبیاء کی صرف روحوں کی امامت کرائی ماسوا حضرت عیسیٰ کے جن کا خاکی جسم بھی تھا۔

نہ خنجر اٹھے گانہ تلوار ان سے یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

یہ شعر پڑھ کر میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ چیلنج سن کر ”مناظر لاثانی“ نے فرمایا کہ میری طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ اس پر ان کو لانے والے ساتھیوں نے ان کی سخت ملامت کی کہ بڑی بڑی تعلیم کرنے کے بعد ایک بچے کے سامنے تم نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ علامہ کی ناسازی طبع پر انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ میں دو روز تک یہاں ہوں جب طبع مبارک ٹھیک ہو جائے، یہ خادم حاضر ہو جائے گا مگر میرے قیام کے دوران بھی ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور وہ وزیر آباد چلے گئے اور میں واپس مرکز احمدیت ربوہ میں پہنچ گیا۔

اس مقام پر میں خدا کے ایک خاص تصرف کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ یہ کہ میں نے ”بیداد پور“ روانہ ہونے سے صرف ایک روز قبل حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کی یہ معرکہ آرا تحریر پڑھی تھی کہ ”انبیاء تو سب زندہ ہیں۔ مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ معراج کی رات آنحضرت ﷺ کو کسی کی لاش نظر نہ آئی سب زندہ تھے“

(آئینہ کمالات اسلام ضمیمہ تحریر 17 ستمبر 1892ء روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 612)

یہ محض میرے پیارے مولا کا فضل و احسان ہوا کہ عین وقت پر اس نے اس ذرہ ناچیز کے دل میں خدا کے مسیح کا یہ عظیم الشان نکتہ ڈال دیا۔ پس مناظرہ بیداد پور کی کامیابی دراصل حضرت مسیح موعود کے باطل شکن علم کلام کا معجزہ ہے جس میں میری کسی قابلیت کا شائبہ بھر دخل نہیں۔

44- ایک مجلس سوال و جواب میں جو حافظ آباد شہر میں ہوئی یہ اعتراض بڑے

شد و مد سے پیش کیا گیا کہ مسیح ابن مریم نزول کے بعد آنحضرت کے روضہ مبارک میں دفن کئے جائیں گے۔ میں نے پبلک کے سامنے سب سے پہلے اس امر پر اظہار افسوس کیا کہ مشکوٰۃ شریف میں نبیوں کے سردار کا جو ارشاد مبارک مندرج ہے، اس کے سراسر خلاف سوال کیا گیا ہے جو کسی محب رسول کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ خوب غور سے سنئے کہ حدیث کے عربی متن کا ترجمہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے اور میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکرؓ اور عمرؓ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے (باب

نزول عیسیٰ حدیث نمبر 5272)

اب اگر اس حدیث کی مادی اور ظاہری تشریح کی جائے تو اس سے سرور کائنات ﷺ کی ایسی شرمناک ہتک لازم آتی ہے کہ رنگیلا رسول شردھانند اور رشدی جیسے گستاخانِ رسول اس کے سامنے ہیج ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل میں خاکسار نے واضح کیا کہ قدیم مورخ اسلام حضرت سہودی نے ’وفاء الوفا‘ میں اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکرؓ حضور کے قدموں میں آسودہ خاک ہیں اور ان کے متوازی سیدنا عمرؓ کا مزار ہے۔ چونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے اس لئے معترض صاحب نے سرے سے آنحضرتؐ کی حدیث مبارک کے لفظ ’قبر‘ کو کمال دریدہ دہنی سے روضہ یا مقبرہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب دیکھئے کہ وہ لوگ جو حدیث رسول کو ظاہری شکل اور مادی رنگ دیتے ہیں دنیائے اسلام کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ان کی تشریح کے مطابق مسیح ابن مریم کو چونکہ گنبد خضریٰ ہی میں دفن ہونا ہے اس لئے اُن کی خاطر معاذ اللہ سب سے قبل گنبد خضریٰ کی کسی دیوار کو مسمار کرنا ہوگا پھر حدیث مشکوٰۃ کے مطابق حضرت ابوبکرؓ کی قبر کو اکھاڑ کر آنحضرتؐ کی قبر مبارک کے دائیں اور حضرت عمر کو بائیں طرف سپرد خاک کیا جائے گا بعد ازاں حدیث کے ظاہری الفاظ کو پورا کرنے کے لئے خود شاہنشاہِ دو عالم کی قبر مبارک کھول کر اس میں عیسیٰ ابن مریم کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا کا کوئی غیر مسلمان اپنے آقا کے روضہ مبارک کی ایسی شرمناک بے حرمتی گوارا کر سکتا ہے؟ ازاں بعد میں نے حدیث رسول کی تشریح کا ایک دوسرا رخ پیش کیا اور وہ یہ کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا سرچشمہ اول قرآن پھر کثوف وروایہ صالحہ ہیں جو استعارات و مجازات کا مرقع ہیں اس لئے معتبرین اسلام نے ان کو کبھی ظاہر پر محمول کرنے کی جسارت نہیں کی۔ (الاماشاء اللہ) لہذا ہمیں اس حدیث کی تفسیر کے لئے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ آمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ پھر اس نے مارا اور قبر میں رکھا۔ یہی وہ خدا کی قبر ہے جس کی طرف حدیث رسول میں اشارہ فرمایا گیا ہے اور علاوہ ازیں آنحضرتؐ نے یہ مزید تشریح کر کے گویا پوری حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا، وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب خلاصہ اس

بصیرت افروز حدیث کا یہ ہوا کہ درود کی کثرت اور شب و روز اس میں انہماک مسیح موعود کا طرہ امتیاز ہوگا اور وہ درود شریف کو حرز جان بنانے میں پوری ملت میں اول نمبر پر ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے مہدی کو عالم کشف میں دو فرشتے دکھلائے جو کاندھوں پر نور کی مشکیں اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمدؐ کی طرف بھیجے تھے۔ ﷺ

(براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ 502 حاشیہ نمبر 3۔ اشاعت 1884ء)

پیش کردہ سوال میں چونکہ ضمناً سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لاہور میں وصال کے بارے میں ناپاک پراپیگنڈا کی طرف اشارہ تھا اس لئے مجھے بھی یہ بتانا ضروری تھا کہ حضرت اقدس کے وصال پر مسلم و غیر مسلم پریس نے بالاتفاق آپ کے اسلامی کارناموں کو زبردست خراج تحسین ادا کیا خصوصاً ”امام الہند“ ابوالکلام آزاد نے اخبار ”وکیل“ امرتسر میں ادارہ لکھا کہ آپ اسلام کے فتح نصیب جرنیل تھے جنہوں نے صلیب پرستوں کی دھجیاں فضائے بسط میں بکھیر ڈالیں۔ ازاں بعد میں نے سامعین کو بتایا کہ اس نوع کی افترا پردازی اور خبیث باطن کا مظاہرہ بھی حضرت مسیح موعود کی حقانیت کا ایک دائمی نشان ہے۔ وجہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہم مغضوب نہ بن جائیں۔ آنحضرتؐ کی تفسیر کے مطابق یہودی علماء مغضوب تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں مسیح ناصری کا ظہور ہوا جسے انہوں نے کافر و مرتد کہا اور سولی کی لعنتی موت مارنے کی ناکام سازش کی اور آپ کی وفات کو ملعون قرار دیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر کسی مسیح موعود نے چودھویں صدی میں مبعوث نہیں ہونا تھا نہ اس کی تکفیر و ارتداد پر علمائے زمانہ نے یہودیانہ خصلت کا اعادہ کرنا تھا اور نہ اس کی وفات پر انہی کی طرح اخلاق سوز افسانہ اختراع کرنا تھا تو یہ دعائے خاص کیوں عالم الغیب خدا نے نازل فرمائی اور پھر کیوں شہنشاہ نبوت ﷺ نے ہر نماز میں اس کا پڑھنا لازم قرار دیا۔

آخر میں خاکسار نے اس حیرت انگیز انکشاف پر روشنی ڈالی کہ عہد حاضر کے چوٹی کے بعض مسلم محققین مثلاً علامہ شبلی نعمانی مصنف ”سیرت النبی“ قدیم اور مستند تاریخی لٹریچر کی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (فداہ روحی و جسمی) کی مقدس روح یکم ربیع الاول 11 ہجری

مطابق 26 مئی (662ء) کو عرشِ معلیٰ تک پہنچی تھی اور یہی آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ کی تاریخِ وفات ہے جو خارقِ عادت بات ہے اور انسانی کوششوں سے بالا۔
حضرت اقدس فرماتے ہیں ۔

ربط ہے جان محمدؐ سے مری جاں کو مدام
دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے
تیری الفت سے ہے معمور مرا ہر ذرہ
اپنے سینہ میں یہ اک شہر بسایا ہم نے
تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد
تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے

45- ایک دفعہ دورانِ مبادلہ خیالات یہ دلچسپ مسئلہ اٹھایا گیا کہ کیا خدا تعالیٰ حضرت مسیحؑ کو آسمان تک لے جانے میں قادر نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے حاضرین کو یقین دلایا کہ ہر احمدی ایمان رکھتا ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ چاہے تو دنیا بھر اور بالخصوص پاکستان کے کافر گر ملاؤں کو بھی آسمان پر لے جاسکتا ہے اور خدا کرے کہ وہ جلد آسمان پر اٹھائے جائیں تاکہ خلقت انکی چیرہ دستیوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے۔ خس کم جہاں پاک۔ ایک احمدی شاعر نے عیسائیوں کی طرح حضرت مسیحؑ کی حیاتِ جسمانی کے قائل طائفہ کے اعتقاد کی یوں عکاسی کی ہے

خدا ہر چیز پر قادر ہے لیکن
بنا سکتا نہیں عیسیٰ مسیحؑ کا ثانی

46- ایک عالمِ دین نے جنہیں منبر و محراب کے وارث ہونے کا بھی غرہ تھا، سیدنا مسیحؑ ناصرِ مری کی زندگی پر اپنے جوشِ خطابت کے خوب جوہر دکھلائے۔ میں نے ادب سے گزارش کی کہ میں حیران ہوں کہ مسلمان کہلا کر آپ حضرات گستاخِ عیسائی پادریوں سے غلو میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو تو خدا نے ایک رات بھی آسمان پر آرام کرنے کی اجازت عطا نہ فرمائی لیکن حضرت عیسیٰؑ کو اس نے انیس سو سال سے اپنے تخت کے بائیں طرف بٹھا

رکھا ہے۔ اس پر بس نہیں عیسائیوں کے باسیلید یہ فرقہ کی طرح آپ بھی صدیوں سے اس عقیدہ کے ناقوسِ خصوصی بنے ہوئے ہیں کہ خدائے قادر جس نے اپنے حبیب نبیوں کے سردار کو بوقتِ ہجرت غار میں چھپا دیا، اسی نے یسوع مسیح علیہ السلام کو صلیب سے پجانے کے لئے فوراً آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی مبارک اور خدا نما شبیہ ایک بدقماش ڈاکو پر ڈال دی اور اس کو یہود نے مسیح سمجھ کر مصلوب کر دیا۔ اب خدا را بتائیے کیا کوئی سچا مسلمان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ قادر مطلق خدانے کبھی حضرت آدم کا چہرہ ابلیس کو، حضرت ابراہیم کا چہرہ نمرود کو، حضرت موسیٰ کا چہرہ فرعون کو اور حضرت سید الشہداء حسینؑ کا چہرہ یزید جیسے ملعونوں کو عطا فرمایا؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایسی گستاخی ناقابلِ معافی ہے کہ ہزاروں لاکھوں بد بخت لیکھروں، راجپالوں اور رشیوں کی عمر بھر کی خباثتیں، چہرہ دستیاں اور مغالطات اس خیال کے مقابل چنداں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

(حضرت اقدس مسیح موعود)

47- یہ اُن دنوں کا واقعہ ہے جب جماعت اسلامی اور دیوبندی علماء اور ضیا امریکی صدر کی قیادت میں پورے جوش و خروش سے ”جہاد افغانستان“ کر رہے تھے اور ہر طرف آمر ضیاء کی ”اسلامائزیشن“ کا پراپیگنڈازوروں پر تھا۔ میں ربوہ اسٹیشن سے لاہور جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا کہ سائلگہ بل آنے پر میرے کمرہ میں جماعت اسلامی کے ایک رکن یا (متفق یا متاثر) تشریف لائے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور مجھ سے استفسار کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب عرض کیا ”ربوہ سے آرہا ہوں“ یہ الفاظ سنتے ہی اُن کے چہرہ کی سنجیدگی اور مسکراہٹیں یکا یک کافور ہو گئیں اور منہ بسورتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی نسبت یہ ریمارکس دیئے کہ انہوں نے دعویٰ کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ میں نے اس پر صرف یہ کہا کہ حضرت اقدس کا دعویٰ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اس دعویٰ پر تنقید کا حق صرف ایسے شخص کو ہے جو خود صاحبِ وحی و الہام ہو اور حلفاً بیان کرے کہ حق تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ مرزا صاحب (معاذ اللہ) صادق نہیں۔ حضور کے زمانہ میں جو سچے اہل اللہ تھے مثلاً حضرت پیر سراج الحق نعمانی، حضرت مولانا غلام رسول راجیکی، حضرت پیر اشہد الدین سندھ وغیرہ۔ وہ تو اپنے کشوف و الہامات کی بنا پر آپ کے حلقہ ارادت سے منسلک ہو گئے۔ اگر آپ کو بھی شرفِ مکالمہ و مخاطبہ حاصل ہے تو آپ قسم کھا کر اعلان کریں کہ مجھے الہاماً بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ صحیح نہیں بلکہ محض افتراء ہے۔ اس مطالبہ پر یہ صاحب پہلے تو چند منٹ خاموش رہے پھر یکا یک اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈبے ہی کو جلسہ گاہ بنا کر جنرل ضیاء صاحب کے متعلق لچھے دار زبان میں پراپیگنڈا کرنے لگے کہ اُن کی برکت سے تیرہ صدیوں بعد پھر اسلامی نظامِ زکوٰۃ پورے ملک میں قائم ہو چکا ہے، بیت المال بھی موجود ہے اور اسلامی تعزیرات پر بھی عمل جاری ہے۔

ابھی اعلیٰ حضرت نے اپنے جلالی خطاب کا آغاز ہی فرمایا تھا کہ ایمرن کالج کا ایک تیز طرار سٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا اور بڑی جرأت اور پُر زور لہجے کے ساتھ سوال کیا کہ یزید کی حکومت کے بارہ میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس سوال پر وہ نہایت درجہ سراسیمہ اور مضطرب ہو گئے اور یہ گوہر فشانہ کی کہ استغفر اللہ تم کس ملعون کی بات کر رہے ہو۔ یزید کی حکومت ہرگز ہرگز اسلامی حکومت نہیں تھی۔ ”پھر کیا تھی؟“ کالج کے نوجوان طالب علم نے اس پر زبردست جرح کرتے ہوئے پوچھا۔ فرمانے لگے ”وہ مسلمانوں کی حکومت تھی نہ کہ اسلامی حکومت۔“ اب نوجوان کالجیٹ نے پورے زور سے یہ سوال اٹھایا کہ یزید آنحضرت ﷺ کے ایک جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ اس کی سلطنت کی حدود ایران و شام سے لے کر بشمول شرق اوسط کے عرب ممالک کے جنوبی افریقہ تک ممتد تھیں۔ اُس کے عہد میں نظام زکوٰۃ پوری شان سے رائج ہو چکا تھا۔ بیت المال بھی تھا اور اسلامی سکے بھی رائج تھے اور اسلامی تعزیرات کا نفاذ بھی ہوا تھا۔ اگر یزید کی سلطنت اسلامی نہیں تھی تو ضیاء کی حکومت کیونکر اسلامی تسلیم کی جاسکتی ہے۔ علامہ بتائیں کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں کیا فرق ہے؟

اس سوال پر حضرت بالکل بے بس ہو گئے تو مجھے مخاطب کر کے درخواست کی کہ مولانا آپ بھی تو مسلمان ہیں۔ کچھ آپ بھی راہنمائی فرمائیں۔ میں نے خدا کی دی ہوئی توفیق سے جواب دیا کہ میری تحقیق کے مطابق اسلامی حکومت نبی اور اس کے بعد خلفا کی تاثیرات قدسیہ سے قائم ہو سکتی ہے۔ مگر ”مسلمانوں کی حکومت“ کا اطلاق ہر اُس مملکت پر ہو سکتا ہے جس کی اکثر آبادی کلمہ گو مسلمانوں پر مشتمل ہو خواہ اُن کے اعمال و عقائد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بتا کر میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ دوستوں کی رو سے نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ جو نبی کا نام لے، اس کی زبان آپ گدی سے کھینچ لینا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خلافت کا ظہور نبی کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہ کسے معلوم نہیں کہ آج روئے زمین میں صرف جماعت احمدیہ میں نظام خلافت قائم ہے۔ لہذا جب تک آپ اور ضیاء صاحب، مودودی صاحب کے مرید، خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کرتے، انہیں ”اسلامی نظام“، ”اسلامی حکومت“ اور ”اسلامی دستور“ جیسی اصطلاحات کے استعمال کا قطعاً کوئی حق نہیں اور ہرگز نہیں!! اس بات پر ان کی آنکھیں آنسوؤں

میں تیرنے لگیں اور انہوں نے مجھ سے سو فیصدی اتفاق کیا کہ خلافت کے بغیر اسلامی حکومت کا منصوبہ شہود پر آنا ممکن نہیں۔ اس گفتگو کے ختم ہوتے ہی گاڑی شاہدہ اسٹیشن پر رک گئی۔ جیسا کہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ انہیں لاہور جانا تھا مگر خدا جانے ان کے دل میں یکا یک کیا خیال آیا وہ چپکے سے اس اسٹیشن پر اتر گئے۔

یہاں ضمناً یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی بانی جماعت اسلامی (ولادت ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء و وفات ۲۳ ستمبر ۱۹۷۹ء) بھی دورِ حاضر کی کسی بھی مسلمان مملکت کو اسلامی حکومت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اُن کی نگاہ میں خلافت عثمانیہ کا ساڑھے چھ سو سالہ دور بھی بالکل اسلامی نہ تھا بلکہ صرف پرانے ٹرکس نظام کا فقط چربہ تھا۔ خلافت کا ادارہ برائے نام تھا۔ محض ایک بادشاہ کے لیے خلیفہ کا خطاب اختیار کر لیا گیا تھا۔ حالانکہ خلافت اور بادشاہت (MONARCHY) بالکل مختلف چیز ہے۔

(خطبات یورپ صفحہ ۱۴۴ تا ۱۴۵ احباب پبلی کیشنز لاہور)

نیز انہوں نے ”مجلة الغرباء“ (لندن) کے ایک سوالنامہ کا لندن میں جواب دیتے ہوئے یہ بیان دیا:

”اسلامی صرف وہی چیز ہے جو ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق ہو۔ مثلاً ایک مسلم حکومت ہر اُس حکومت کو کہا جاسکتا ہے جس کے حکمران مسلمان ہوں لیکن اسلامی حکومت صرف اسی کو کہا جاسکتا ہے جو اپنے دستور اور قوانین اور انتظامی پالیسی کے طور پر پوری طرح اسلام پر قائم ہو۔“
(ایضاً صفحہ ۷۷)

48- ”محمدی بیگم“ سے متعلق پیشگوئی پر پوری بے حجابی سے تنقید ہمیشہ سے عیسائی پادریوں اور احراری واعظوں کی تحریروں اور تقریروں کا جزو لاینفک رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں خلافت ثانیہ کے آخری سالوں میں جلسہ سالانہ ربوہ کے لیے حافظ آباد اور اس کے ماحول کے دورے کر رہا تھا تو شہر کے ایک مخالف حلقہ کی طرف سے طنز اُسب سے وزنی سوال یہی اٹھایا گیا تھا۔ خاکسار نے بتایا کہ اگر میں خدا نخواستہ احمدی نہ ہوتا اور صرف محمدی بیگم سے متعلق پیشگوئی اور اس کے حیرت انگیز نتائج کا مطالعہ کرتا تو صرف اسی بنا پر میں فوراً احمدیت قبول کر لیتا۔ وجہ یہ کہ اصل پیشگوئی کے الہامی الفاظ فقط یہ تھے:

”یموت و یبقی منه الکل المتعدده“

(تتمہ اشتہار ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء حاشیہ)

یعنی ایک شخص مر جائے گا اور اس کی طرف سے بہت سے کتے باقی رہ جائیں گے۔ چنانچہ سو فیصدی ایسا ہی وقوع میں آیا۔ مرزا احمد بیگ صاحب اپنی بیٹی کے دوسری جگہ رشتہ کرنے کے بعد پیشگوئی کے عین مطابق تین سال کے اندر کوچ کر گئے۔ اور سارے خاندان میں کھرام مچ گیا۔ یہ ہیبت ناک اور قہری نشان دیکھ کر اس مخالف خاندان کے دس افراد حضرت مسیح موعود کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کے فرزند مرزا اسحاق محمد صاحب نے قبول احمدیت کا اشتہار دیا۔ (پوری فہرست کے لیے دیکھئے ”تقیہیات ربانیہ“ صفحہ ۶۰۸ مولف خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب) اب پیشگوئی کے دوسرے حصہ کے شاندار ظہور کے لیے ”احراری امیر شریعت“ کا حیرت انگیز اعتراف ملاحظہ ہو۔ آپ نے روزنامہ ”امروز“ ملتان کو بیان دیتے ہوئے فرمایا:

”بیٹا جب تک یہ کتیا (زبان) بھونکتی تھی سارا برصغیر ہندو پاک ارادت مند تھا۔ اس نے بھونکنا چھوڑ دیا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔“

(”حیات امیر شریعت“ صفحہ ۱۵۴۶ از جانباز مرزا، مکتبہ تبصرہ لاہور نومبر ۱۹۶۹ء)

نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا
کتوں سا کھولنا منہ تخم فنا یہی ہے
یہ بیان انہی دنوں امروز ملتان میں شائع ہوا اور اس وقت بھی میرے پاس موجود تھا جو میں نے اس احراری دوست کی خدمت میں پیش کر دیا جسے پڑھ کر وہ بالکل مبہوت ہو گئے۔

49- ایک بار ربوہ میں بھی وفد میں شامل ایک تیز طرار مولوی صاحب نے یہی اعتراض دوہرایا جس پر میں نے قرآن کی سورہ تحریم کی درج ذیل آیت پڑھی:

”عَسَىٰ رَبُّهُٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبَدِّلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسْلِمٰتٍ
مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تَبٰتُّنَّ عِبٰدٰتٍ سَعٰتٍ تَبٰتُّنَّ وَاَبْكَارًا“

قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تم (ازواج مطہرات) کو طلاق دے دے تو وہ تم سے زیادہ بہتر بیویاں اسے دے دے جو مسلمان ہوں گی، مومن ہوں گی، فرمانبردار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت کرنے والی ہوں گی، روزہ دار ہوں گی، بیوہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی۔

تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت آنحضرت ﷺ کے عقد میں گیارہ ازواج تھیں۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدائے عزوجل نے اپنے محبوب رسول کو کم از کم گیارہ ”محمدی بیگموں“ کا یقینی وعدہ کیا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجدد اسلام علامہ سیوطیؒ اور دوسرے بزرگ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگر عسلی کا حرف خدا کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی یقینی اور قطعی کے ہوتے ہیں مثلاً **عَسَى** اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا“ (بنی اسرائیل: ۸۰)

اس تشریح کے بعد میں نے ان صاحب سے دو ٹوک الفاظ میں سوال کیا کہ اگر کوئی گستاخ رسول یہ اعتراض کرے کہ تمہارے نبی کو گیارہ ”محمدی بیگمات“ کی جو قرآنی بشارت ملی وہ غلط نقلی تو آپ کیا جواب دیں گے۔ نام نہاد ”محافظ ختم نبوت“ سکتے میں آگئے۔ پھر بولے یہ پیشگوئی آنحضرت علیہ السلام کے طلاق دینے سے مشروط تھی۔ نہ آنحضرتؐ نے طلاق دی نہ گیارہ نبی ازواج آپ کو دی گئیں ع

لو اپنے دام میں صیاد آ گیا

اس پر میں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت مسیح موعود کی محمدی بیگم سے نکاح کی پیشگوئی بھی اُس کے خاوند کی مخالفت اور اس کے نتیجہ میں اس کی موت کے ساتھ مشروط تھی۔ خود حضرت اقدس واضح الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ماکان الہام فی هذه المقدمه الاکان معہ شرط“

(ضمیمہ انجام آہتم صفحہ ۲۲۳ طبع اول ۱۸۹۶ء)

یعنی اس پیشگوئی کے متعلق کوئی الہام ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ شرط نہ ہو۔

50- کالی کٹ (جنوبی ہند) کی ایک مجلس سوال و جواب میں ایک معزز غیر احمدی دوست نے سوال کیا کہ پیشگوئی اسمہ احمد کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے کئی بطن اور کئی معانی ہیں مثلاً مفسرین نے ق و القرآن کے تین معنی تحریر کیے ہیں۔ (۱) قادر خدا (۲) قلب محمد (۳) کوہ قاف۔ بالکل اسی نقطہ نگاہ سے ہمیں "اسمہ احمد" کی شخصیت کے بارہ میں غور و فکر کرنا ہوگا جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے مہدی امت کا نام "احمد" بتلایا ہے۔ (فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۳۳ حضرت ابن حجر المکی مطبوعہ مصر ۱۹۳۷ء) اس صورت میں اصل سوال تو یہ اٹھنا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ نے جو حقیقی معنوں میں اس پیشگوئی "اسمہ احمد" کے مصداق ہیں، مہدی کا نام کیوں احمد رکھا۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ لفظ "احمد" کے لغوی معنی ہیں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا۔ اس حقیقت کی روشنی میں میرا ایمان ہے کہ اگر آیت "اسمہ احمد" میں خدا کی انتہائی حمد و ثنا کرنے والے نبی کا ذکر ہے تو اس سے سوائے سیدنا و مولانا حضرت اقدس محمد عربی ﷺ کی مبارک و مقدس ذات کے اور کوئی مراد لیا ہی نہیں جاسکتا اور اگر یہ خیال کیا جاوے کہ یہ پیشگوئی محمد مصطفیٰ ﷺ کے کسی بے مثال عاشق صادق اور سب سے بڑھ کر آپ کے مناقب و محاسن بیان کرنے والے وجود سے تعلق رکھتی ہے تو اسے حضرت بانی جماعت احمدیہ پر ہی چسپاں کرنا ہوگا۔ یہ تفسیر سن کر سائل نے اعتراض کیا کہ مرزا صاحب کا نام تو غلام احمد تھا۔ آپ "اسمہ احمد" کا مصداق کیونکر ہو سکتے ہیں؟ سارے حاضرین اس دلچسپ سوال کا جواب سننے کے لیے بے تاب سے منتظر تھے کہ میں نے یہ نکتہ پیش کیا کہ آنحضرت ابن عبد اللہ تھے کیونکہ عبد اللہ تو ہمارے نبی کے والد معظم کا نام تھا مگر اللہ نے سورہ جن آیت ۲۰ میں آپ کو "عبد اللہ" کے نام سے پکارا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں جس قادر خدا نے ابن عبد اللہ کو عبد اللہ بنا دیا اسی نے آپ کے غلام صادق کا نام احمد رکھ دیا۔ یاد رہے عربی میں غلام بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے **فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ** (الصافات: ۱۰۲)

51- ایک مجلس میں سوال اٹھایا گیا کہ بانی سلسلہ نے کشف دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں "قادیان" کا نام ہے۔ یہ نام کہاں ہے قرآن سے دکھلائیے۔ میں نے جواب دیا آپ اپنے تئیں کشفی کیفیت طاری کر کے دیکھیں گے تو ضرور مل جائے گا۔ دوسرا روبرو کوہم قادیان کا ظل اور عکس سمجھتے

ہیں۔ لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر ظل کا ذکر قرآن میں یقینی طور پر موجود ہے تو اصل کا بھی ضرور ہوگا۔ چنانچہ ہماری جماعت کے ایک اہل کشف والہام بزرگ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی نے ”حیاتِ قدسی“ میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں جناب الہی کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ ”ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ“ کی آیت میں ”ق“ سے مراد قادیان ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قادیان دارالامان سے قرآن مجید، اس کے تراجم و تفسیر اور معارف کی جس کثرت سے اشاعت ہوئی اور ہو رہی ہے دنیا کی کوئی اور ہستی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

52- ڈیفنس سوسائٹی کراچی میں ایک کامیاب مجلس مذاکرہ منعقد ہوئی۔ کارروائی کے اختتام پر پاکستان آرمی کے ایک سابق لیفٹیننٹ یا میجر صاحب کھڑے ہو گئے اور ملٹری آفیسر کے لب و لہجہ میں مجھے ڈانٹ پلائی کہ قرارداد اسمبلی کے بعد تمہیں اپنے مسلک کی اشاعت کا کوئی حق نہیں۔ میں نے بادب جواب دیا کہ آپ کے ”امیر المؤمنین“ ضیاء صاحب نے اس اسمبلی کی سیاہ کاریوں کا قرطاس اسود شائع کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ سب لوگ بدقماش، شہوت پرست اور غنڈے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بد معاشوں اور غنڈوں نے ہمیں مسلمان تسلیم نہیں کیا۔ ہاں آپ کو مبارک ہو جنہیں سرکاری مسلمان ہونے کا تمغہ ان کے ”مقدس“ ہاتھوں سے عطا ہوا ہے۔ جونہی یہ علمی محفل ختم ہوئی یہ فوجی میرے پاس آئے اور معذرت کی کہ انہوں نے ایک نامعقول سوال کر کے مجلسی آداب کو پامال کیا ہے لیکن میں نے ان کا غایت درجہ شکر یہ ادا کیا کہ ان کی نوازش سے ایک مسئلہ کی حقیقت پبلک میں کھل کر سامنے آگئی ہے۔

53- ربوہ کا واقعہ ہے تعلیم الاسلام کالج کے بعض احمدی اور غیر احمدی سٹوڈنٹس ایک احراری خطیب کو شعبہ تاریخ میں لے آئے اور بتلایا کہ یہ صاحب بانی جماعت کے اس مصرعہ کا خوب مذاق اڑا رہے ہیں کہ ع

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

خاکسار نے معزز مہمانوں پر یہ حقیقت واضح کی کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے ورنہ جو شخص بھی حضرت اقدس کے لٹریچر کو استہزاء کا نشانہ بنائے گا،

اس کی اسلام اور قرآن سے جہالت فوراً ظاہر ہو جائے گی۔ مثلاً اسی مصرعہ کو لیجئے۔ وہ لوگ جو حضرت ابراہیمؑ پر جھوٹ، حضرت نوحؑ پر شرک، حضرت یوسفؑ پر ارادہ زنا، حضرت داؤدؑ اور پاکوں کے سردار محمد مصطفیٰ ﷺ پر معاشقہ سے متعلق روایات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہی جائے نفرت سے مراد شرمگاہ لیتے ہیں مگر قرآن کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ فرماتا ہے جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم انہیں جنت الفردوس کے وارث بنائیں گے۔ (المومنون رکوع ۱) اس ایک مثال سے ہی واضح ہو گیا کہ اس مصرعہ کو غلط معانی پہنانے والے قرآن مجید کے کپکپے دشمن ہیں۔ یہی وہ بد زبان ہیں جن کی دشنام طرازی اس وقت اپنے عروج تک پہنچ جاتی ہے جب وہ سامعین کو مشتعل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود کا یہ الہام پیش کرتے ہیں کہ ”الہی بخش تیرا حیض دیکھنا چاہتا ہے“ حالانکہ حضرت خاتم الانبیاء نے خود یہ اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے ”الکذب حیض والاستغفار طہارتہ“ (کنوز الحقائق از حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ) یعنی جھوٹ حیض ہے اور جس سے انسان استغفار کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت اقدس نے حمل کا استعارہ بھی اپنے لیے بیان فرمایا ہے جو آنحضرت ﷺ کے ارشاد مبارک میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا حشر میں سب لوگ حاملہ کی طرح ہوں گے جس کو کچھ پتہ نہیں کہ کب وضع حمل ہوگا۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے ”اذا کان الساعۃ من الناس کالحامل المتمم لایدری اهلها متی تفضاء لهم بولادتها ألیلاً أَوْ نهاراً“ (مستدرک جلد ۴ صفحہ ۵۴۶ روایت حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ۔ مطبوعہ بیروت لبنان)

افسوس صد افسوس جس جھوٹ کو خاتم الانبیاء ﷺ نے حیض سے تشبیہ دی ہے دیوبندی اور مودودی امت کے یہاں اُسی کا باز اگر کم ہے اور حیض کے طوفانوں میں بُری طرح غرق ہیں جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ مودودی صاحب کا عقیدہ تھا کہ بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ کانگریسی لیڈر حسین احمد مدنی نے بھی ”نقش حیات“ میں اس کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے اور مولوی رشید احمد گنگوہی (دیوبندی امت کے ”بانی اسلام کے ثانی“) کہ فتاویٰ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کو کذب صریح یعنی سفید جھوٹ بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ تقویٰ کی کیسی کیسی ”باریک راہیں“ ان دین فروشوں نے کھول دی ہیں!!

54- ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ عاجز سا ہیوال کے ایک نانگہ میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بعض دیوبندی علماء بھی تشریف رکھتے تھے۔ وقت مختصر تھا اس لیے مجھے اُن سے صرف ایک سوال کرنے کا موقع ملا۔ وہ یہ کہ آج ہندوستان کے دیوبندی علماء بھارت کی ہندو حکومت کے مطیع و فرمانبردار ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن برطانوی حکومت کے خلاف انہوں نے فتویٰ جہاد دیا۔ کیا کوئی ایسا قرآن ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر حکومت انگریزوں کی ہو تو اس کی بغاوت فرض ہے اور اگر ہندو مہاشے حکمران ہوں تو ان کی اطاعت عین اسلام ہے۔ سورہ یوسف سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر فرعون کی حکومت ہو اور یوسف علیہ السلام جیسا اولوالعزم پیغمبر اس کی رعایا ہو تو اسے فرعون کی حکومت کے آئین و دستور کا احترام کرنا ہوگا۔ الحمد للہ جماعت احمدیہ ۱۸۸۹ء سے آج تک اسی مسلک کی منادی کر رہی ہے۔ مگر انگریزی حکومت کے خاتمہ کے بعد آپ کو اپنا نظریہ یکسر بدلنا پڑا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا فرض ہے کہ پہلا فتویٰ اسلام کے خلاف تھا یا دوسرا۔ میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ فرمانے لگے اب ہمیں یہیں اترنا ہے۔ خدا حافظ!!

55- ایک منشرع اہلحدیث بزرگ اپنے بعض شاگردوں سمیت زیارت ربوہ کے لیے تشریف لائے۔ آپ ”اپنا قرآن“ بھی ساتھ لائے اور آتے ہی مطالبہ کیا کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں بشرطیکہ آپ ”میرے قرآن مجید“ سے ”غلام احمد“ کا نام دکھلا دیں۔ میں نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے درخواست کی آپ یہ شرط تحریر فرمادیں۔ فرمانے لگے اس کی کوئی ضرورت نہیں میرا زبانی اقرار کافی ہے۔ اس پر عاجز نے سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کی یہ تحریر پڑھی کہ:

”یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق

اللہ کو پہنچا دے کہ..... دارالنجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔“

(حجۃ الاسلام صفحہ ۱۲، ۱۳، اشاعت ۸ مئی ۱۸۹۳ء)

میں نے بتایا کہ چونکہ مسیح محمدی کا مقصد بعثت ہی کلمہ طیبہ کی اشاعت ہے لہذا آپ اپنے قرآن سے کلمہ طیبہ کے مکمل الفاظ دکھائیں میں ثابت کر دوں گا کہ اس کے معاً بعد غلام احمد کا نام بھی

موجود ہے۔ ظاہر ہے یہ نام فطری اور طبعی ترتیب کے مطابق کلمہ طیبہ کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ یہ بزرگ خاصی دیر تک ورطہ حیرت میں ڈوبے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ یقیناً قرآن میں موجود ہے لیکن دو الگ الگ سورتوں میں تقسیم ہو کر، یکجا ایک آیت میں نہیں۔ میں نے عرض کیا جس خدا نے مبارک کلمہ اکٹھا نہیں لکھا وہ اس کے علمبردار کا نام ایک آیت میں کیوں یکجا رقم فرماتا۔ پس غلام احمد کے نام کے پیچھے بالکل یہی فلسفہ کار فرما ہے۔ اللہ جل شانہ نے لفظ ”غلام“ آل عمران میں اور لفظ ”احمد“ سورہ صف میں لکھا ہے۔ پس غلام احمد کا نام بھی یقیناً کتاب اللہ میں شامل ہے۔ لہذا اب مولانا المکرم اپنے وعدہ کے مطابق ابھی بیعت فارم پر کر دیں۔ یہ سنتے ہی آنجناب اپنے عزیز شاگردوں کو پکڑ کر فی الفور باہر نکل گئے اور افتاں و خیزاں ربوہ کے اڈہ پر پہنچ کر دم لیا۔

56- پشاور کی ایک مجلس سوال و جواب عہد خلافت ثانیہ میں منعقد ہوئی جس کی صدارت حضرت سیدی صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے فرمائی۔ ایک تحریری سوال یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے تمام نبیوں کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو گستاخی ہے۔ میں نے مختصراً بتایا کہ ایسے بلند دعویٰ حضرت جنید بغدادی اور دیگر بہت سے صلحاء امت نے بھی کیے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اس دعویٰ کے ساتھ ہی بانگ دہل یہ حقیقت بھی نمایاں فرمائی ہے کہ

اِس چِشمہ رِواں کَہ مَخْلُوقِ خِدا دَہم
يَکِ قَطْرَةُ زَبْحِ کَمالِ مُحَمَّدِ اسْت

کہ میں مخلوقِ خدا کو جو چشمہ دے رہا ہوں وہ کمال محمد ﷺ کے ناپیدا کنار سمندر کا فقط ایک قطرہ ہے۔ اب سامعین حضرات تصور کریں کہ جس نبی کے ایک قطرہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جلوہ گر ہیں اُس نبی کے لامحدود سمندر کی کیا شان ہوگی؟ ضمناً خاکسار نے جناب باقر مجلسی صاحب (بلند پایہ شیعہ مؤلف) کی کتاب ”بحار الانوار“ جلد ۱۳ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت اقدس کا یہ دعویٰ تو آپ کی صداقت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ کیونکہ آئمہ اہل بیت کی یہ پیشگوئی اس میں درج ہے کہ امام مہدی تمام نبیوں کا بروز ہونے کا دعویٰ کرے گا۔

57- ایک شیعہ ذاکر مولوی بشیر احمد صاحب آف ٹیکسلانے احمد نگر متصل ربوہ تقریر کی اور جلسہ عام میں اہل سنت والجماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ خواہ مخواہ قادیانیوں سے میل ملاپ رکھتے ہو۔ وہ تو تمہارا جنازہ تک پڑھنے کے روادار نہیں ہیں۔ اگلے دن جماعت احمدیہ احمد نگر کے زیر اہتمام اس کے جواب میں جلسہ منعقد ہوا جس میں حضرت قاضی محمد نذیر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ اور گیانی واحد حسین صاحب (شیر سنگھ) مربی سلسلہ اور خاکسار کی تقاریر ہوئیں۔ میں نے جنازہ سے متعلق سوال کی نسبت کہا کہ احمدی تو آنحضرت ﷺ کے پاک اسوہ کے پابند ہیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے کسی قرضدار صحابی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب میں بتاتا ہوں پوری امت مسلمہ پر بھی آنحضرت ﷺ کا ایک بھاری قرض ہے اور وہ یہ کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی آواز پر لبیک کہے اور خواہ اسے برف کے تو دوں پر سے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے اسے مہدی کے حضور پہنچ کر بیعت کرنی چاہیے۔ اب کوئی عاشق رسول بتائے کہ جو شخص ہمارے مقدس نبی، نبیوں کے شہنشاہ محمد رسول اللہ ﷺ کا قرضدار ہو ہم غیور احمدی جن کا مذہب ہی عشق رسول ہے، اس شخص کا جنازہ پڑھنے کی کیسے جرأت کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ دو ایک منٹ کھڑے ہو کے دعا کرنے کا نہیں۔ اُس رسول سے غیرت کا سوال ہے جس کی خاطر خدائے ذوالعرش نے کائنات عالم پیدا کی ہے۔ اس کے بعد میں نے احمد نگر کے سنی بھائیوں سے کہا کہ اب میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ دوست بعض اوقات سنتیوں کا نماز جنازہ ضرور پڑھتے ہیں مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اہلسنت کی نماز جنازہ میں جو ”دعائے مغفرت“ کرتے ہیں وہ کن الفاظ میں ہوتی ہے۔ شیعوں کے ”ثقتہ اسلام محمد بن یعقوب کلینی“ کی زبانی اس کی عبارت سنئے اور غور سے سنئے۔

”اللهم املاء جوفه ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب۔“

(الفروع من الکافی کتاب الجنائز مطبوعہ مطبع نوکلشور لکھنؤ اشاعت ۱۸۸۵ء)

یعنی اے خدا اس کا پیٹ آگ سے بھر دے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط فرمادے۔

”دعائے مغفرت“ کا ترجمہ سنتے ہی شیعہ حضرات تو شرم کے مارے سر چھپا کے چپکے سے کھسک گئے۔ اگلے روز ہم نے دیکھا کہ احمد نگر کی جس گلی کو چہ سے کوئی شیعہ صاحب گزرتے تھے سنی بچے تک اُن کی شکل دیکھتے ہی مخصوص دعا اونچی آواز سے پڑھ دیتے اور وہ جلدی سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ کھڑے ہوتے۔

58- کھوکھر غربی (ضلع گجرات) کے ایک جلسہ میں مجھے یہ تحریری سوال دیا گیا کہ مرزا صاحب تو معاذ اللہ برطانوی حکومت کے ایجنٹ تھے۔ میں نے وقت کی مناسبت سے یہ جواب دیا کہ انگریزوں نے حضرت مسیح موعود کے خاندان کی ۸۲ دیہات پر مشتمل جاگیر ندر ۱۸۵۷ء میں ضبط کر لی مگر آپ کے خلاف سب سے پہلے ملک گیر فتویٰ کفر شائع کرنے والے اہلحدیث عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو مر جوں سے نوازا جس کا اعتراف انہوں نے اپنے رسالہ ”اشاعت السنۃ“ میں برملا کیا ہے۔ اب فرمائیے انگریزوں کا ایجنٹ کون ہوا۔ پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ انگریزی دور میں مخالف علماء جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا تھا آپ کو باغی کہتے تھے مگر آج کی پیداوار مولوی صاحبان کے پُر افترا پراپیگنڈا کا سارا زور اس پر ہے کہ آپ معاذ اللہ انگریزوں کے جاسوس تھے۔ اب حاضرین خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون کذاب ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء آنحضرت ﷺ نے چودہ صدیوں قبل انذار کیا تھا کہ آخری زمانہ میں امتی کہلانے والے بعض لوگ جھوٹی باتیں پھیلائیں گے۔ یاد رکھو وہ دجال و کذاب ہوں گے۔ ان سے خبردار رہنا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ (حدیث حضرت ابو ہریرہؓ مقدمہ مسلم شریف)

59- ایک جگہ یہ بحث گرم تھی کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں چودھویں صدی کے دوران آنے کی خبر موجود ہے۔ خاکسار نے معزز سامعین کو بتایا کہ حضرت مسیح موعود نے سورہ فاتحہ کو اپنی صداقت کی محکم دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سورۃ میں اللہ جل شانہ نے دعا سکھلائی ہے کہ ”غیر المغضوب علیہم“ کہ ہمیں مغضوب علیہم نہ بنائیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ مغضوب یہودی تھے جنہوں نے مسیح کا انکار کیا اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد چودھویں صدی ہی میں مبعوث ہوئے۔ (مزید تفصیل گزر چکی ہے۔ دوہرانے کی ضرورت نہیں)

60-۱۹۷۴ء کی بات ہے کہ راولپنڈی سے ”تبلیغی جماعت“ کے ایک بزرگ مرکز سلسلہ میں تشریف لائے اور بتلایا کہ انہوں نے لوگوں کو صحیح کلمہ پڑھانے، وضو اور طہارت کے مسائل سکھانے اور ان کو پکانمازی بنانے کی خاطر اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ میری گزارشات کا خلاصہ یہ تھا کہ ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو پاکستان اسمبلی نے عملاً یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور دستور مسلمان ہونے کے لیے فقط کلمہ گو ہونا کافی نہیں بلکہ اُسے بھٹو صاحب اور علماء کی اختراع کی ہوئی نئی تعریفِ مسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا جب کلمہ منسوخ کر دیا گیا اسے پڑھانے کی زحمت آپ کیوں گوارا فرماتے ہیں؟

میں نے دریافت کیا کہ آپ اذان بھی دیتے ہیں۔ جواب دیا ہاں۔ میں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ مؤذن کو کہنا پڑتا ہے اشہد ان لا اله الا اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت صرف عینی گواہ دے سکتا ہے اور خدا کے موجود ہونے کی گواہی الہام و وحی کا مہبط بنے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لیکن آپ حضرات کے نزدیک تو سلسلہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ تار و زقیا مت بند ہو چکا ہے۔ لہذا آپ شہادت کیسے دے سکتے ہیں کہ خدا واقعی موجود ہے۔ یہ اعزاز صرف احمدی کو حاصل ہے جس کے نزدیک اسلام موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا کلام کر رہا ہے لہذا اذان دینے کا اصل حق تو صرف احمدیوں کو حاصل ہے۔ آپ لوگ اس کے اصولاً مجاز ہی نہیں۔

آخر میں ان سے دریافت کیا گیا کہ نماز کے دوران آپ حضرات درود شریف بھی پڑھنا لازم سمجھتے ہیں۔ فرمایا یقیناً۔ میں نے ان سے نہایت ادب سے عرض کیا کہ درود شریف میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اے خدا جو نعمت تو نے آل ابراہیم کو عطا فرمائی تھی آل محمد کو بھی اس سے مالا مال کر دے۔ ظاہر ہے آل ابراہیم کو جو عظیم ترین نعمت و برکت عطا ہوئی وہ نبوت تھی۔ اب غور فرمائیے جو سرے سے آنحضرت کی تاثیرات قدسیہ سے فیضان نبوت ہی کو بند کیے بیٹھے ہیں انہیں نماز کے وقت درود شریف پڑھنے کا بھلا کیا حق ہے؟

عاجز کی درد دل سے نکلی ہوئی یہ سب باتیں وہ بزرگ بہت توجہ سے سنتے رہے اور آبدیدہ ہو گئے اور دلدگداز اور رقت بھرے الفاظ میں فرمانے لگے افسوس ساری عمر گزر گئی مگر کسی ہمارے عالم کو یہ حقائق بتانے کی توفیق نہ ملی۔ نہ ہمیں ہی ان کا خیال آیا جو ہماری بد نصیبی ہے۔

61-1985ء میں خاکسار کو بیت الفضل لنڈن میں ایک خطبہ نکاح پڑھنے کی سعادت نصیب

ہوئی۔ دوران خطبہ خاکسار نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے ”من يهدده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له“ کے الفاظ خطبہ جمعہ، خطبہ عید اور خطبہ نکاح غرضیکہ ہر قومی اور اجتماعی تقریب کے موقع پر پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ان مبارک الفاظ کے ذریعہ ایک ایسا ابدی پیغام دینا مقصود ہے جو قیامت تک ہر زمان و مکان میں گونجتا رہے اور کبھی فراموش نہ کیا جاسکے۔

ترجمہ ان انقلاب آفریں الفاظ کا یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے کوئی نہیں جو اس کو گمراہ قرار دے سکے اور جسے وہ گمراہ قرار دیتا ہے ناممکن ہے کہ اُس کو کوئی ہدایت دے سکے۔ اگر ہم چشم بصیرت سے ان الفاظ پر غور کریں تو اس میں ہمیں ایک ایسا پُر اسرار پیغام ملے گا جسے سمجھنے کی دنیا کو پہلے سے کروڑوں گنا بڑھ کر آج زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ یہ کہ یھدی اور یضلل مضارع کے صیغے ہیں جو حال اور مستقبل دونوں پر محیط ہیں اور میرے نزدیک اس میں ایک پیشگوئی مضمَر ہے جو ”من يهدده الله“ کے الفاظ میں ہے۔ دراصل یہ پُر حکمت الفاظ مہدی ہی کی تشریح ہیں اور مقصود اس حقیقت کی چار دانگ عالم میں منادی ہے کہ کوئی نہیں جو خدا تعالیٰ کے موعود مہدی کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکے۔ ان الفاظ میں یہ بھی اعلان عام ہے کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ان بد نصیبوں کو ہدایت دے سکے جو خدا کے دفتر میں مسلمان نہیں۔

62- آمرضیاء کے خلاف اسلام آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ایک چالاک نوجوان سفید لباس

میں ملبوس مجھے ملا اور درخواست کی کہ مجھے تبلیغ کریں۔ میں صرف اسی غرض سے یہاں آیا ہوں۔

میں نے اس کا ایک معزز مہمان کی حیثیت سے پُر تپاک استقبال کیا اور شکر یہ بھی ادا کیا کہ آرڈیننس کے باوجود آپ نے مرکز میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری تبلیغ کا تو محمد رسول اللہ ﷺ نے قیامت تک کے لیے خود اہتمام فرما دیا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے اس احسانِ عظیم کے آگے ہماری گردنیں خم ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔

ان صاحب نے حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے کیا تبلیغ فرمائی ہے۔ یہ تو ایک عجوبہ روزگار بات ہے اور میرے لیے بہت بڑا انکشاف ہوگا۔ میں نے اس مشکوک شخص کو بتایا

کہ آنحضرت ﷺ نے ہر امتی کو چودہ صدیوں سے حکم دے رکھا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ ”رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک“ (ترندی، احمد، ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ) میرے رب میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور مسجد سے نکلنے ہوئے ان الفاظ میں دعا کرنے کا ارشاد نبوی ہے کہ: ”رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک“ (ایضاً) میرے رب میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

ان ابدی دعاؤں کا سرچشمہ کتاب اللہ ہے۔ اور اعجازِ قرآنی ملاحظہ ہو کہ آل عمران آیت نمبر ۷۵ میں رحمت و فضل دونوں کا ذکر یکجا طور پر موجود ہے۔ ربِّ کریم فرماتا ہے یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔
(ترجمہ) وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اب سنئے مشہور عالم تابعی مفسر حضرت مجاہدؒ (۶۴۲ء-۷۲۳ء) کے نزدیک اس آیت کریمہ میں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ (درمنثور للسیوطی) اور فضل عظیم کی تفسیر خود قرآن عظیم نے (سورہ جمعہ کی آیت ۴-۵ میں) یہ فرمائی ہے کہ:

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

یعنی آخرین میں بھی وہ رسول اللہؐ کو بھیجے گا جو ابھی تک ان صحابہ سے نہیں ملی اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے گا دے گا اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔
قول مصطفیٰؐ کی اس قرآنی تفسیر کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

63- خلافتِ ثالثہ کا مبارک دور تھا۔ خاکسار بیتِ اقصیٰ میں حضور کا پر معاف خطبہ سننے کے

بعد اقصیٰ چوک تک پہنچا تو تعلیم الاسلام کالج کے احمدی اور غیر احمدی طلبہ کا ایک جہوم نظر آیا جسے ایک

بد زبان ملانے گھیرا ہوا تھا۔ ایک احمدی کالجیٹ کی مجھ پر اتفاقاً نگاہ پڑ گئی۔ وہ دوڑ کر میرے پاس تشریف لائے اور مجمع میں جانے کے لیے اصرار کیا۔ میں نے اُن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں رائے دی کہ میں گھر کی بجائے دفتر شعبہ تاریخ میں جاتا ہوں۔ آپ سب حضرات وہیں پہنچ جائیں۔ میں شدت سے انتظار کروں گا۔ سو الحمد للہ دفتر کا دروازہ کھلتے ہی یہ سب معزز مہمان پہنچ گئے۔ احمدی طالب علم ملا صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور اُن کی طرف سے ایک پرچی مجھے دی جس پر حضرت مسیح موعود کا یہ شعر لکھا تھا:

کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

خاکسار نے پورا شعر سنانے کے بعد علی وجہ البصیرت بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود چونکہ خدا اور مصطفیٰ کے عاشق بے مثال ہیں، اس لیے آپ کا نثری یا شعری کلام صرف ایسا شخص سمجھ سکتا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہو اور اس کے ہر لفظ کے برحق ہونے پر دل سے یقین رکھتا ہو۔ حضرت اقدس خود ارشاد فرماتے ہیں

اے عزیزو سنو کہ بے قرآن

حق کو ملتا نہیں کبھی انسان

باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا

میرا بستان کلام احمد ہے

اس حقیقت کی روشنی میں آئیے قرآن و حدیث کے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ جلشانہ نے سورہ یونس آیت ۷۸-۷۹ میں بنی نوع کو نصیحت فرمائی ہے کہ اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ ہم نے تم سب کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں کامل الایمان ہونے کی یہ علامت بیان ہوئی ہے کہ ہر انسان کو چاہئے کہ وہ سب مخلوق کو اونٹ کی میٹگی کے برابر اور اپنے تئیں میٹگی سے بھی کمتر اور حقیر سمجھے۔ (عوارف المعارف باب ۶۳ تالیف عارف باللہ حضرت شہاب الدین سہروردی۔ ولادت ۱۱۶۶ء وفات ستمبر ۱۲۳۵ء) صاف کھل گیا حضرت اقدس کے عارفانہ شعر کا پہلا مصرعہ اسی روح تصوف کی عکاسی کرتا ہے۔

اب میں دوسرے مصرعہ کی طرف آتا ہوں۔ ”ختم نبوت کے چیمپیئن“، ”بشر کی جائے نفرت“ سے مراد شرمگاہ لیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید نے اس کے بالکل برعکس خوشخبری دی ہے کہ جو مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ جنت الفردوس میں رکھا جائے گا۔ (سورہ مومنوں رکوع اول)

ہمارا کام تھا وعظ و منادی
سو ہم وہ کر چکے واللہ ہادی

64- ایک عرصہ کی بات ہے کہ ڈیرہ غازی خان شہر میں جماعت احمدیہ کا سالانہ جلسہ تھا۔

دوران تقریر مجھے جماعت اسلامی کے ایک رکن ”متفق“، یا ”متاثر“ کا رقعہ ملا کہ جب ہم دونوں کا مقصد نظام اسلامی کا قیام ہے تو ہمیں ایک ہو کر یہ دینی خدمت انجام دینا چاہیے۔ خاکسار نے جواب دیا کہ بلاشبہ حضرت مسیح موعود کا مقصد بعثت پوری دنیا پر غلبہ اسلام ہے۔ مگر اول تو جماعت احمدیہ اور ”جماعت اسلامی“ کا تصور اسلام ہی یکسر جدا ہے۔ دوسرے آنحضرت ﷺ کی حدیث ہے کہ ”افتتحت المدينة بالقرآن“ کہ مدینہ الیکشن یا تلوار سے نہیں قرآن مجید سے فتح ہوا۔ (کنز العمال) اور جماعت احمدیہ انشاء اللہ دنیا پر ثابت کر دے گی کہ جس قرآن نے مدینہ پر فتح پائی تھی اُس کی بدولت امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا پر پرچم اسلام لہرایا جائے گا۔ مگر جناب مودودی صاحب نے ”الجہاد فی الاسلام“ میں یہ خوفناک نظریہ پیش فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ وعظ و تلقین میں سراسر ناکام رہے لیکن تلوار کامیاب ہوئی اور اس کے ذریعہ تمام عرب مسلمان ہوا۔

محترم آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اقتدار کی خاطر ہرگز قبول اسلام نہیں کیا اور انہیں فاقہ پر فاقہ آتا اور کئی بار غش کھا کے گر جاتے مگر آستانہ نبوی سے جدانہ ہوتے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ وہ بالآخر بحرین کے گورنر بنا دیئے گئے۔ بس یہی ہم دونوں میں ماہہ الاتیاز ہے۔ ہم آنحضرتؐ کے در کی غلامی اور گدائی کے مقابل بادشاہت ہفت اقلیم کو بھی ہیچ سمجھتے ہیں مگر آپ حضرات صرف گورنری کے خواہاں ہیں۔ اشاعت اسلام کا قرآنی جہاد آپ کے مقاصد و اغراض ہی میں شامل نہیں۔ کیونکہ آپ مصر کی اخوان المسلمین کا پاکستانی ایڈیشن ہیں۔

یہ جلسہ بہت کامیاب رہا جس کے بعد مقامی جماعت کی طرف سے معززین شہر کو عصرانہ پیش کیا گیا جس میں ایک صاحب نے وکیلانہ انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کسی فرشتے کا نام بھلا ”ٹیچی“ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اگر عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب اپنا نام ہندی میں ترجمہ کر کے پنڈت کر پارام برہمچاری رکھ سکتے ہیں جیسا کہ شورش کاشمیری صاحب نے ان کی سوانح میں لکھا ہے تو کیا خدا کو یہ حق نہیں کہ وقت مقررہ پر آنے والے کا ترجمہ پنجابی میں کر کے کسی کو ”ٹیچی“ کے نام سے پکارے اور پکارے بھی خواب میں۔ ع

ایں چہ بوالعجبی است

65- ایک دفعہ مجھے ایک فوجی آفیسر (غالباً کیپٹن یا میجر) کے ساتھ ایک ہی کلاس میں سرگودھا سے ربوہ تک سفر کا اتفاق ہوا۔ فوجی آفیسر صاحب روشن دماغ، وسیع حوصلہ، صاحب ذوق اور شعر و سخن سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے چوٹی کے اردو شعرا کے متعدد اشعار سنائے۔ میں نے ان کے حسن انتخاب کو سراہا اور ہر شعر پر دل کھول کر داد دی۔ جن کو کسی مناسب موقع کے انتظار میں پوری خاموشی سے سنتا رہا اور بالآخر ان کے آخری شعر کی مناسبت سے میں نے فصیح الملک داغ دہلوی کا یہ پُر جلال کلام پڑھا۔

پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں
جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

پھر بتایا کہ اس خیال کو برصغیر کے ایک سیاسی اور ایک مذہبی رہنما نے اپنے اشعار میں باندھا ہے۔ سیاسی لیڈر کہتے ہیں۔

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں
جسے غرور ہو آئے کرے شکار مرا

اور مذہبی پیشوا فرماتے ہیں۔

مرے پکڑنے پہ قدرت تجھے کہاں صیاد
کہ باغ حسن محمد کی عندلیب ہوں میں

تیسرے شعر نے تو ان پر وجد کی سی کیفیت طاری کر دی اور انہوں نے اس کے بلند پایہ تخیل کو بے پناہ خراج تحسین پیش کیا اور بے تابی سے پوچھا کہ یہ کس بزرگ کی روحانی کاوش کا شاہکار

ہے۔ میں نے انہیں بتایا پہلا شعر تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا گرسی لیڈر کا ہے اور دوسرا ہماری جماعت کے امام ہمام سیدنا محمود ^{لمصلح} الموعود کا ہے۔ اس کے بعد اُن کی خصوصی فرمائش پر کلام محمود کے چند اور اشعار پیش کیے اور یہ دلچسپ اور رُوح پرور سلسلہ مبادلہ افکار ربوہ اسٹیشن کے آنے تک جاری رہا۔ میں نے اُن کا شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی اور درخواست کی کہ کبھی خاکسار کے یہاں ربوہ بھی تشریف لائیں۔

66- بعض اہل حدیث علماء سے ربوہ میں ملاقات ہوئی۔ خاکسار نے تحریک احمدیت کا واقعاتی تعارف کرانے کے بعد اظہارِ افسوس کیا کہ موحد کہلانے والے خطیب جناب مولوی عبداللہ روپڑی صاحب نے ضیاء الحق جیسے فرعونِ زمانہ اور نمرودِ وقت کا قلم اس سے عاجزانہ درخواست کے ساتھ یادگار کے طور پر حاصل کیا۔ (چٹان لاہور ۷ تا ۱۴ مئی ۱۹۸۴ء صفحہ ۸) اور پھر اس کے تقدس کی اپنے ایک بیان میں خوب تشہیر کی۔ حالانکہ پورا آرڈیننس اسلام، اخلاق اور عالمی دستور کے بالکل خلاف تھا۔ اب بطور نمونہ اذان کی نسبت آنحضرت ﷺ کا مبارک اسوہ پیش کرتا ہوں۔ احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور نے ”مؤذن الرسول“ بلال کو اذان دینے پر کبھی انعام نہیں دیا اور انعام دیا ہے تو ایک بدترین دشمن اسلام کو۔ چنانچہ غزوہ حنین سے واپسی کا واقعہ ہے کہ آنحضرت نے اپنے شدید معاند اور مذاقا اذان دینے والے ابو محمد ورہ کو دوبارہ اذان دینے کا حکم صادر فرمایا جسے سن کر آپ اس درجہ خوش ہوئے کہ آنحضرت نے پہلے اپنے دست مبارک سے اس کے سینہ کو برکت بخشی پھر چاندی سے بھری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر عطا فرمائی اور یہ بھی اجازت دی کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی اذان دے سکتا ہے۔

(دارقطنی جلد ۱ صفحہ ۲۳۳ باب فی ذکر اذان ابی محذورہ)

اس اسوہ رسول کے برخلاف روپڑی صاحب نے نہ صرف ضیاء کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور اس کے ناپاک قلم کو تبرک سمجھ کر حاصل کیا اور اب یہ جبہ پوش اس قانون کی منظوری کو اپنے دینی کارناموں میں شامل کرتے ہیں۔

ع چہ دلاور است دز دے کہ بکف چراغ دارد

67- راقم الحروف ایک دفعہ حضرت شیخ علی بن حمزہ کی کتاب ”جو اہر الاسرار“ کی تلاش میں شاہی مسجد کے ناظم کتب خانہ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ کتاب تو نہ ملی مگر میں نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رہنمائی چاہی کہ ولی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ وہ عالم دین ہونے کے باوجود جواب دینے سے بالکل قاصر رہے۔ تب میں نے بتایا کہ مولوی ظاہری اور مادی مدرسوں سے علم حاصل کرتا ہے مگر ولی وہ ہے جو خدا کے مدرسہ میں پڑھتا اور اس سے ہم کلام ہو کر عرفان و حکمت کے اسرار سیکھتا ہے اور اسی اختلاف کے باعث ہر دور کے علماء ظواہر نے اولیاء امت پر فتویٰ کفر دیا اور یقیناً یہی سلوک آج بانی جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں لائبریری سے باہر آ گیا۔

68- ایک بار ملتان جاتے ہوئے خاکسار گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسر صاحب کا ہمسفر تھا۔ موصوف نے یہ دردناک سوال کیا کہ ہم خیر امت ہیں اور یہود مغضوب لیکن ایک طویل عرصہ سے اُن کی تیغ ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ چند لاکھ ہیں اور ہماری تعداد کروڑوں سے متجاوز ہے۔ کیا خدا نے امت محمدیہ کو چھوڑ دیا ہے اور بنی اسرائیل کو جو مغضوب تھے منعم علیہم کا تاج پہنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسئلہ فلسطین میں عربوں کی فقید المثال و کالت حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خاں صاحب نے فرمائی اور احمدی آج تک صیہونی فتنہ کے خلاف سر تاپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ اس ضمنی تذکرہ کے بعد آپ کے سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ کفر و اسلام کے معرکوں میں ہمیشہ حقیقی اسلام کے علمبرداروں کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ مگر جب کافروں اور منافقوں کا مقابلہ ہوتا تو کافر کی جیت ہوتی ہے اور منافق ہار جاتے ہیں۔ کیونکہ نفاق حق تعالیٰ کی نگہ میں کفر کے مقابل زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ پھر میں نے یہ مثال دی کہ اگر کوئی شخص پانی کے ہزاروں مٹکے اپنے پاس رکھے تو کوئی حکومت اس پر قدغن نہیں لگاتی نہ کوئی دیوانی یا فوجداری قانون حرکت میں آتا ہے لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے پانی سے بھری ہوئی ایک شیشی پر عرق گلاب کا لیبل چسپاں کر کے اسے دوا خانہ میں رکھا ہوا ہے تو اس پر 420 کا مقدمہ چل جائے گا۔ اس مثال نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم مسلمان ضرور کہلاتے ہیں مگر ہم میں اسلام نہیں ہے اور اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔

۱۹۸۱-۶۹ء کا واقعہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کے ارشاد پر عازم ایک وفد کے ساتھ پہلی بار بنگلہ دیش گیا۔ چٹاگانگ میں نائب امیر جماعت چوہدری عبدالصمد صاحب مرحوم نے اپنی کوٹھی میں ایک شاندار ڈنر کا اہتمام فرمایا جس میں بنگلہ دیش کے قریباً ہر اہم طبقے کے معززین نے شرکت فرمائی۔ مدعوین میں جماعت اسلامی کے ایک لیڈر بھی تھے جو ڈھاکہ سپریم کورٹ یا ملک کی کسی ہائی کورٹ کے نامور ایڈووکیٹ تھے۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو تو پاکستان پارلیمنٹ نے ”غیر مسلم“ قرار دے رکھا ہے۔ اب آپ کو یہاں تبلیغ کرنے کا کیا حق ہے۔ میں نے ان کے سوال کا بہت شکر یہ ادا کیا اور بتایا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ سوال علمی خزانوں کی کنجی ہے (جامع الصغیر للسیوطی) لہذا آپ کی عطا فرمودہ کنجی کے لیے آپ کا ممنون احسان ہوں۔ ان تمہیدی الفاظ کے بعد اول طور پر میں نے اُن سے یہ پہلا سوال کیا کہ کیا بنگلہ دیش کی عدالتوں میں بھی دستور پاکستان کی عملداری ہے؟ کہنے لگے ہرگز نہیں۔ بعد ازاں پوچھا کہ پارلیمنٹ میں پاس ہونے والا قانون کیا موثر بہ ماضی ہوتا ہے؟ انہوں نے بالوضاحت جواب دیا کہ سوائے اس کے کہ خود قانون میں اس کا ذکر موجود ہوئے قانون کا نفاذ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی ہوتا ہے پہلے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس وضاحت کی روشنی میں خاکسار نے یہ آئینی نکتہ پیش کیا کہ پاکستان اسمبلی نے ہمارے خلاف ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو جو قانون پاس کیا اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص آنحضرت ﷺ کو غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتا یا کسی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا یا اس مدعی کو نبی یا مجدد مانتا ہے وہ اغراض قانون کی خاطر ”ناٹ مسلم“ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس شق میں کس مدعی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمانے لگے آپ کی جماعت کے بانی کی طرف۔ اب میں نے انہیں ان کی وضاحت ہی کا حوالہ دے کر یہ تاریخی حقیقت پیش کی کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا وصال ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو برٹش انڈیا میں ہوا جس کے ۳۹ سال بعد ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور ۱۹۷۴ء میں اس کی اسمبلی نے قانون پاس کیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ شیر خدا جو قیام پاکستان سے ۳۹ سال قبل اور قرارداد اسمبلی ۷ ستمبر سے ۶۶ سال قبل سے خالق حقیقی کے دربار اور آنحضرت ﷺ کے قدموں میں آرام کر رہا ہے اس پر اسمبلی پاکستان کا ۱۹۷۴ء کا قانون کس طرح لاگو ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے ایڈووکیٹ نے بے ساختہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ اس پر میں نے بھی باواز بلند کہا اس صورت میں واضح نتیجہ نکلا کہ ہم احمدیوں پر بھی اس ایکٹ کا نفاذ جائز نہیں اور ہرگز نہیں۔

تقریب ختم ہوئی تو ہم لوگ چٹا گانگ کے ہوائی اڈہ پر پہنچے جہاں چٹا گانگ پولیس کے ایک نمائندہ نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تو آپ کو اور آپ کے دوسرے ممبران وفد کو خوب کورٹیج دی ہے حتیٰ کہ آپ کا تعارف "HISTORIAN OF ISLAM" کے طور پر کرایا ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہ دستوری اعتبار سے آپ کو کس نام سے یاد کرے گا۔ میں نے بنگالی رپورٹرز کو زبانی جواب دینے کی بجائے اسے اکبر الہ آبادی کا یہ شعر لکھ دیا۔

مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں
کرڑوں یوں تو ہیں لکھے ہوئے مردم شماری میں

70- ۱۷۰۷ء کی بات ہے کہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے چار معزز غیر احمدی لیکچراروں سے (جو دیوبندی ملاؤں کے پرستار تھے) میری طویل گفتگو ہوئی۔ میں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی کتاب کو اپنی گفتگو کا محور بنایا اور ختم نبوت سے متعلق آپ کے الفاظ میں اُن کا یہ عقیدہ پوری وضاحت سے بیان کیا کہ عوام تو خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے لیتے ہیں مگر اصل معنی آیت کریمہ کے یہ ہیں کہ باقی نبی تو امتیوں کے باپ تھے اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ کتاب کے آخر میں حضرت مولانا قاسمؒ نے علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد جو نبی آئے گا وہ آپؐ ہی کی شریعت کی اشاعت کرے گا۔ کتاب سے خاتم النبیین کے اصل معانی اور اس فتویٰ کے الفاظ نہایت بلند آہنگی سے سنانے کے بعد میں نے لیکچرار صاحبان سے پوچھا کہ آج دنیا کی سطح پر ختم نبوت کے ان حقیقی معنوں پر جماعت احمدیہ کے سوا کون ایمان رکھتا ہے۔ سب کو بالاتفاق اقرار کرنا پڑا کہ صرف آپ لوگ۔ لیکن ظلم و ستم کی حد یہ ہے کہ یہ صاحبان زبانی اقرار کر کے چل دیئے مگر پوشیدہ پر میز پر ایک کاغذ کا پرزہ چھوڑ گئے جس میں یہ چیخ درج تھا کہ ”اگر آپ کو اپنے مذہب پر یقین ہے تو ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔“

71- قیام پاکستان کے دوسرے سال جبکہ یہ عاجز فرقان بنا لین کا رضا کار تھا۔ ”امام برہٹ“

سے رخصت لے کر راولپنڈی آیا جہاں لیاقت باغ میں ایک طرف احرار کے اجتماع میں احسان شجاع آبادی صاحب تقریر کر رہے تھے اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی مجلس مذاکرہ کا کیمپ تھا۔

میں فوجی وردی میں ہی کمپ کے اندر جا بیٹھا اور سوال و جواب کی کارروائی سننے لگا۔ میں نے دیکھا کہ کالجیٹ نوجوان کثیر تعداد میں شریک محفل ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی کے ایک عالم دین (غالباً مولوی صدر الدین صاحب) بڑی عمدگی سے اپنا نقطہ نگاہ پیش کر رہے تھے۔ ایک ایک میرے دل میں بھی جوش اٹھا اور اُن کی خدمت میں یہ سوال پیش کر دیا کہ جماعت اسلامی کا نصب العین اسلامی نظام کا قیام بتایا گیا ہے۔ میں ایک فوجی سپاہی کی حیثیت سے اپنے مطالعہ کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ”اسلامی نظام“ کا از سر نو قیام گدی نشینوں، واعظوں اور ادیبوں سے نہیں بلکہ ہمیشہ خدا کے نبیوں کے ذریعہ سے ہوتا رہا ہے۔ لہذا یہ تو قادیانیوں کی طرح صاف اقرار کریں کہ فیضانِ نبوت پر کوئی قدغن نہیں ہے یا پانچ ہزار سالہ مذہبی تاریخ میں سے صرف ایک مثال پیش کریں کہ کسی غیر نبی کے ہاتھوں خالص اسلامی نظامِ حیات از سر نو معرضِ وجود میں آیا ہو۔ میرے اس سوال پر موصوف کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور اپنی بجائے ایک اور صاحب کو کھڑا کر کے مجلس سے چل دیئے۔ ”جماعت اسلامی“ کے نئے ترجمان بہت تیز طرار تھے۔ فرمانے لگے کہ آپ کا اصل سوال کیا ہے؟ اُن کی فرمائش پر میں نے اپنا سوال دوہرایا۔ فرمانے لگے نبی کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا اس وقت جواب دینے کا فرض تو آپ کا ہے۔ اسی لیے آپ کمپ لگا کر دوسروں کو دعوتِ مذاکرہ دے رہے ہیں۔ بایں ہمہ میں اس وقت حاضرین کے سامنے خود کچھ عرض کرنے کی بجائے قرآن مجید سے نبی کی تعریف پیش کرتا ہوں۔ کیوں کہ خدا ہی نبی بناتا ہے اور وہی اس مقامِ بلند کی اصل حقیقت بتا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ آل عمران (آیت ۱۸۰) مَآ كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَا تَرَجْمَهٗ كِيَا كَهٗ اَسْ فِي سِمْۡكَرٍ مَّرۡصٰرٍ كَا صِيغَهٗ اسْتِعْمَالٍ هُوَا هِيَ جَوْحَالٍ اَوْرِ مُسْتَقْبَلِ دَوۡنُوۡنٍ پَرِ مِحِيۡطٍ هِيَ اَوْرِ خَدَا كِي اِز لِي سُنَّتِ كِي نِشَانِ دِهِي كَرْتَا هِيَ اَوْر اَسْ سَهٗ يَهٗ اسْتَدْلَالِ هُوَتَا هِيَ كَهٗ نَبِي وَّرِسُوۡلٍ وَهٗ شَخۡصٌ هِيَ جَو خَبِيۡثٍ وَطِيۡبٍ (يعني حق و باطل) مخلوط ہو جانے کے وقت خدا سے منتخب ہو کر بھیجا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی سے حق و باطل کو ممتاز کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کی دعوت پر ایمان فرض ہے۔ قرآن مجید کی رو سے یہ تعریف پیش کرنے کے بعد میں نے پُر جوش لب و لہجہ میں چیلنج کیا کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ان تین شقوں میں سے کون سی شق دائرہ امکان سے خارج ہو چکی ہے؟

1- کیا خبیث و طیب یعنی حق و باطل آپس میں گڈ مڈ نہیں ہو سکتے۔ 2- کیا خدا نے اپنے اوپر دین حق کو خود ممتاز کرنے پر کوئی پابندی لگا رکھی ہے۔ 3- کیا وہ زندہ خدا جو ہمیشہ سے کلام کرتا تھا اب قوت گویائی سے محروم ہو چکا ہے اور بذریعہ الہام رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔

اب میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر ان امور میں سے کوئی امر بھی ناممکن نہیں تو خدا کی طرف سے اصل نظام اسلام کے حقیقی خدوخال بتانے اور ان کو دنیا پر دوبارہ نافذ کرنے کے لیے آنا کیوں محال یا ممنوع ہے؟ پس یا تو آپ کو احمدی ہونے کا اعلان کرنا ہو گا یا نظام اسلامی کے نفاذ کے بلند بانگ دعاوی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میں نے دیکھا کہ کمپ حاضریں سے کچھ کھینچ بھرا ہوا ہے اور کالج کے طلبہ کی خاصی تعداد باہر کھڑی ہے اور بڑے اشتیاق اور بے تابی سے جواب کی منتظر ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی کے ناقوس خصوصی نے ”وقتِ نماز“ کا بہانہ بنا کر اجلاس عام کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ مجلس میں راولپنڈی کے بعض احمدی طلبا کے علاوہ حضرت ماسٹر میر عالم صاحب سابق پریزیڈنٹ کوٹلی آزاد کشمیر بھی موجود تھے جنہوں نے حق کی اس فتح مبین پر مجھے کندھے پر بٹھالیا اور مری روڈ کی قدیم احمدی مسجد میں لے آئے جہاں کئی اور احمدی بزرگ بھی پہنچ گئے اور راولپنڈی جماعت میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوشیوں کی ایک برقی لہر دوڑ گئی اور مسیح موعود سے خدا کا یہ الہامی وعدہ ایک بار پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا کہ جو تیری مدد کا ارادہ بھی کرے گا میں خود اس کی نصرت و اعانت کروں گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد

72- ایک بار یہ عاجز جناب گیانی واحد حسین صاحب (بیعت مارچ ۱۹۲۶ء۔ وفات ۲ جولائی ۱۹۷۰ء) امیر وفد کے ہمراہ بذریعہ ریل ملتان روانہ ہوا۔ میرے ساتھ حسب معمول لٹریچر سے بھرا ہوا ایک ٹرنک بھی تھا جو میں نے اوپر کی سیٹ پر رکھ دیا۔ یہ وہی ٹرنک تھا جس پر آپ مدتوں قبل علاقہ تھل کے پیدل تبلیغی سفر کے دوران یہ لطیف مزاح بھی فرما چکے تھے یہ کیا بوجھ اٹھائے پھرتے ہو۔ محترم گیانی صاحب کی شگفتہ مزاجی، طنز و مزاح اور حاضر جوابی کا سکہ ہم سب مریبوں پر بیٹھا ہوا تھا۔

اُن کی زندگی بھی دلچسپ اور نکتہ آفرینی اور نکتہ چینی کے واقعات سے لبریز تھی لیکن آہ ع

آں قدح بشکت و آں ساقی نماوند

اس سفر کے دوران سانگلہ کی طرح جماعت اسلامی کے ایک اور مقرر صاحب نے بھی سامعین کی سمع خراشی کی اور جناب مودودی صاحب کے عالی مقام و منصب پر طویل لیکچر دیا اور ان کے افکار و نظریات کے پڑھنے اور جماعت اسلامی میں شمولیت کی دعوت دی۔ محترم گیانی صاحب نے جو بڑی دیر سے یہ پراپیگنڈا سن رہے تھے میرے کان میں کہا کہ ”کتابوں کا بوجھ“ کس غرض کے لیے لائے ہو؟ اگر کوئی اور اسلحہ پاس ہے تو دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ دراصل بات یہ تھی کہ ہمارا سفر لمبا تھا اس لیے میں چاہتا تھا کہ مودودی صاحب کے پرستار ”اپنا کیس“ پوری شرح و بسط سے مسافروں کے سامنے رکھیں۔ یہاں تک کہ ان کا گلا ساتھ چھوڑ جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا جلدی ہی ان کی آواز بیٹھ گئی جس پر میں کھڑا ہو گیا اور ”مولانا“ کی معلومات کا حاضرین کی طرف سے شکر یہ ادا کیا۔ پھر ان سے استفسار کیا کہ قرآن مجید نے امت میں نبی، صدیق، شہید اور صالح کے چار درجات کی خبر دی ہے۔ فرمائیے آپ کے عقیدہ کی رو سے ان مدارج عالیہ میں سے سید مودودی صاحب کو کون سا درجہ عطا ہوا ہے؟ ہمارے نزدیک تو وہ صرف اہل قلم ہیں اور اسلام کے نام پر اقتدار پر قبضہ ان کا نصب العین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نہایت نحیف آواز میں جواب مرحمت فرمایا ”وہ صرف امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں۔“ اس پر میں نے گیانی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ٹرنک اوپر ہے اٹھا کر نچلی سیٹ پر رکھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے خوشی سے متمتاتے ہوئے یہ تکلیف گوارا فرمائی اور ٹرنک کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ تصرف الہی ملاحظہ ہو کہ جملہ کتابوں کے اوپر مودودی اخبار ”قاصد کشمیر نمبر“ اور اس کے نیچے فسادات ۱۹۵۳ء کی رپورٹ تحقیقاتی عدالت پڑی تھی۔ چنانچہ میں نے انہیں دکھاتے ہوئے سامعین پر خوب واضح کیا کہ یہ صاحب صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کیونکہ جناب مودودی صاحب کے نزدیک بعض اوقات جھوٹ واجب ہوتا ہے۔ (رسالہ ترجمان القرآن مئی ۱۹۵۸ء) میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ مودودی جماعت اپنے امیر کو خاتم النبیین یقین کرتی ہے۔ جس کا دستاویزی ثبوت یہ میرے ہاتھ میں ہے یعنی قاصد کشمیر نمبر اوور پورٹ عدالت۔ ”قاصد“ کے سرورق پر میاں طفیل محمد صاحب قیم جماعت اسلامی کا یہ بیان جلی عنوان سے شائع شدہ ہے کہ مودودی صاحب اسلام کے ہر مسئلہ پر سند تھے اور سند ہیں۔ اب تحقیقاتی رپورٹ کے

صفحہ ۲۳۵ پر جماعت اسلامی کے چوٹی کے لیڈر مولانا امین احسن اصلاحی کا عداوتی بیان سنیے۔ فرماتے ہیں ”خاتم النبیین کے معنی ہیں زندگی کے متعلق تمام معاملات میں سند۔“ ان دونوں حوالوں سے پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ جماعت اسلامی کی نگاہ میں مودودی صاحب دور حاضر کے خاتم النبیین ہیں۔ محترم مقرر صاحب کا فرض ہے کہ وہ اس کا پبلک کے سامنے جواب دیں۔ گلہ کی خرابی نے ان کی زبان پر مہر سکوت ثبت کر دی تھی۔ وہ بھلا کیا جواب دیتے لیکن آدمی ذہین تھے اگلے اسٹیشن کا انتظار کرنے لگے اور جونہی گاڑی رُکی۔ آپ کمال پھرتی سے پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ گاڑی میں موجود سب شرفاء یہ نظارہ دیکھ کر گم سم ہو گئے۔ شاید سراقبال کا یہ مصرعہ انہیں یاد آ رہا ہو ع

بہت باریک ہیں واعظ کی چالیں

73- جماعت احمدیہ بدو ملہی (ضلع سیالکوٹ) میں جلسہ یوم مسیح موعود میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کے ارشاد پر خاکسار کو بھی شرکت کا موقع میسر آیا۔ میں کارروائی کے شروع ہونے سے چند منٹ قبل آخری نوٹس اور کتابوں کے حوالہ پر آخری نظر ڈالنے میں غرق تھا کہ شہر کے دو اہلحدیث عالم میری قیامگاہ پر تشریف لائے اور بغیر کسی تمہید کے یہ سوال کر ڈالا کہ لاہوریوں سے آپ کا کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اتنا فرق نہیں جتنا اہلحدیثوں اور بریلویوں کے درمیان ہے۔ آپ رضا خانیوں کو مشرک اور رضا خانی آپ لوگوں کو گستاخ رسول قرار دیتے ہیں۔ اس کے مقابل ہم دونوں فرقوں میں صرف لفظی نزاع ہے۔ آنحضرت ﷺ نے امت میں آنے والے مسیح موعود کو چار بار نبی اللہ کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے مراد واقعی نبی اللہ ہی کا منصب ہے مگر ہمارے پچھڑے ہوئے بھائی اسے محض محدثیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اہلحدیث علماء نے بالاتفاق تسلیم کیا کہ آپ لوگوں کا موقف ہی درست ہے مگر ساتھ ہی کہا کہ یہ تو ضمنی بات تھی ہمارا اصل سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے پاکستان کے علماء کرام کی بجائے بھٹو کی سوشلسٹ پارٹی کو کیوں ووٹ دیا۔ حسن اتفاق سے اس وقت جناب مودودی صاحب کا رسالہ ”انتخابی جدوجہد“ میرے پاس تھا۔ میں نے اس کے چند فقرے سنائے جس میں انہوں نے ڈٹ کر لکھا تھا کہ ہمارے نبی محمد عربی ﷺ نے عہدہ طلب کرنے والوں کی شدید

مذمت کی اور اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ (رسالہ میں مسلم وغیرہ مستند احادیث کا متن بھی دیا گیا ہے) میں نے عرض کیا کہ بھٹو صاحب تو ایک خالص سیاسی لیڈر ہیں۔ انہیں ان احادیث کا کہاں پتہ ہوگا لیکن آپ علماء عظام نے یہ احادیث نہ صرف اپنے مدرسوں میں سبقاً سبقاً پڑھی ہیں بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب یحییٰ خاں کی طرف سے ایکشن کے لیگل فریم آرڈر کا نفاذ ہوا تو بھٹو اور ان کی پارٹی سے بھی پہلے آپ حضرات لنگر لنگوٹ کس کر انتخابی دنگل میں پہنچ گئے۔ ہم نے سوچا ہم کلمہ گو سوشلسٹوں کو ووٹ دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی واضح حدیثوں کو چاک چاک کرنے والوں کو ہرگز ووٹ نہیں دے سکتے۔

حسب دستور خاکسار ربوہ پہنچ کر بغرض رپورٹ حضرت اقدس سیدی حضرت خلیفہ ثالثؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اس جواب سے بہت محظوظ ہوئے اور ارشاد فرمایا تم نے جماعت کے موقف کی بہترین وکالت کی ہے۔

74- میرے دادا مکرم جناب میاں رحمت اللہ صاحب آخر دم تک احمدیت کی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ مدرسہ احمدیہ میں داخلہ (۱۹۳۶ء) کے کچھ عرصہ بعد جب میں دوران تعطیلات پنڈی بھٹیاں آیا تو انہوں نے مجھے سخت ڈانٹ پلائی کہ تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں قادیان چلے گئے ہو۔ بعد ازاں آپ مجھے اپنے پیر و مرشد شیخ محمد امین صاحب چنیوٹی کے پاس لے گئے کہ اسے سمجھا دوہ قادیان جانے سے باز آجائے اور قادیانیت ترک کر دے۔ شیخ جی کا یہ عقیدہ تھا کہ آنحضرت ﷺ اور حضرت بوعلیؑ پانی پتی پورے قلندر تھے اور میں آدھا قلندر ہوں۔ دادا صاحب اس خیال پر ایسے لٹو تھے کہ ”آدھے قلندر صاحب“ کے عرس کا اپنے خرچ سے اہتمام کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے بھی آپ ربوہ سے کھینچ لے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقص و سرود دیکھتا رہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب کچھ تو مستی سی طاری تھی اور میرے دل میں حضرت مسیح موعود کا یہ شعر سے بس گیا۔

وقت تھا وقت میجا نہ کسی اور کا وقت

میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

قصہ مختصر 1/2 قلندر صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرزا صاحب تو اپنے تئیں

رسول اللہؐ سے بھی افضل ہونے کے مدعی ہیں۔ تم کس جال میں پھنس گئے ہو۔ تم بچہ ہو اور ساتھ ہی انہوں نے بطور ”سند“ حضرت اقدس کا یہ مصرعہ بھی پڑھا:

ع تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

شیخ جی نے ”آگے بڑھایا ہم نے“ کے الفاظ اپنے دعویٰ کو موثر بنانے کے لیے پوری بلند آہنگی سے پڑھے اور پھر ڈرامائی انداز میں اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا۔ جناب دادا صاحب کو اس ”ایکٹنگ“ اور ”نانک“ سے یقین کامل ہو گیا کہ پیر روشن ضمیر اور مرشد نے اسے خوب پکڑا ہے۔ میرے لیے مغالطہ آفرینی کا یہ پہلا تجربہ تھا اور میں دجل و فریب کا شرمناک نمونہ دیکھ کر ہکا بکارہ گیا کہ بغض و عداوت کی آگ نے ان لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بہر حال میں نے اُن سے درخواست کی کہ آپ ”دُرّ ثمین“ خود ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت اقدس کا پورا شعر یہ ہے

ہم ہوئے خیر ام تجھ سے ہی اے خیر رسل

ع تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہؐ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں اسی لیے ہم خیر ام بن گئے۔ آپ نے نبیوں میں اپنا قدم بڑھایا اور ہم آپ کے طفیل تمام امتوں میں آگے بڑھ گئے۔ خدا ابتائے کہ یہ افضلیت ہے؟ یہ سن کر ”آدھے قلندر صاحب“ بالکل لاجواب اور ساکت و جامد ہو گئے۔ بایں ہمہ ہمارے دادا صاحب نے مرتے دم تک ان کا دامن عقیدت چھوڑا نہ مخالفت احمدیت سے باز آئے۔ اور بالآخر کئی حسرتیں دل ہی میں لے کر اس جہانِ فانی سے چل بسے اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ وجہ یہ کہ اُن کے چھ بیٹوں میں جو تین اُن کے ہم نوار ہے ان میں سے ایک عاقل والی مسجد کے امام تھے جنہوں نے ان کی زندگی میں مسجد میں ہی خودکشی کر لی۔ ایک بیٹا ساری عمر معذور اور لاو لدرہا۔ تیسرے کی یادگار غالباً صرف ایک بیٹا ہے۔ اس کے مقابل آپ کے تینوں احمدی بیٹوں کو خدا نے دین و دنیا کی برکتوں سے معمور رکھا اور ان کی نسلیں نہ صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ کینیڈا، جرمنی اور عرب میں بھی پھل پھول رہی ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے عشقِ خلافت سے سرشار ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ محترم دادا جان بھی مرزا امام الدین صاحب (قادیان) کی طرح ظاہری طور پر

نہایت درجہ بارعب اور طنطنے کے آدمی تھے۔ رنگ سفید اور سرخی مائل، قد و قامت بلند، ڈاڑھی منترع، شکل وجیہہ اور آواز گرجدار۔ ۱۹۴۴ء میں قصبہ پنڈی بھٹیاں کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے ایک سبھا قائم ہوئی جو ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء تک قائم رہی۔ سبھا میں جو چھ معزز مسلمان نمائندے شامل تھے ان میں آپ بھی تھے۔ (پنڈی بھٹیاں اور گردونواح کی تاریخ صفحہ ۱۱۳، ۱۱۴ تا لیلیف جناب اسد شیخ سلیم صاحب ناشر اظہار سنز جمعا ون اظہار ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان لاہور۔ اشاعت ۱۹۹۹ء)

75- ایک بار دوران مجلس ایک غیر احمدی عزیز نے نہایت حقارت سے طنزاً ”پنجابی نبی“ کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ حضرات مجدد الف ثانی کے مکتوبات میں کئی پنجابی نبیوں کا ذکر ہے جو سر ہند میں آسودہ خاک ہیں۔ قرآن مجید کا تو اعلان عام ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی مبعوث کیے ہیں۔ (فاطر: ۳۵) آنجناب کس کس کا مذاق اڑائیں گے۔

76- ۱۹۷۴ء کا سال عام الفرقان اور عام الوفود کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ اس سال آنحضرتؐ کی پیشگوئی (مشکوٰۃ) کے عین مطابق ملک کے بہتر فرقوں نے جماعت احمدیہ کو الگ کر کے اس کے حقیقی مسلمان ہونے پر مہر تصدیق کر دی جس کے بعد ملک کے طول و عرض سے ربوہ میں غیر احمدی معززین کے وفود کا ایک تانتا بندھ گیا۔ یہ زائرین حضرت خلیفۃ المسیح الثالثؒ کی زیارت کے بعد حضور ہی کی ہدایت کے مطابق خلافت لائبریری میں تشریف لاتے اور خاکسار حضور کے فرمان مبارک کی تعمیل میں ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کے علاوہ اصل کتابیں بھی دکھلاتا تھا۔ ان دنوں لائبریری کا ہال ہر جمعرات کو ایک پرہجوم پریس کانفرنس کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لانے والے معززین کی بھاری تعداد اہل سنت والجماعت پر مشتمل تھی۔ میں نے سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ الحمد للہ آپ حقیقی اہلسنت کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ جس کے ثبوت میں خاکسار نے مجدد اہلسنت حضرت امام علی القاری (مدفون مکہ معظمہ ۱۰۱۴ھ/۱۶۰۶ء) کی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ سے ۷۳ فرقوں والی حدیث کی شرح دکھلائی جس میں مجدد اہلسنت نے فرمایا کہ ۷۲ فرقے جسے آخری زمانہ میں جدا کریں گے وہی اہلسنت والجماعت ہوگا اور وہ طریقہ احمدیہ پر ہوگا۔

77- دورہ یورپ کے دوران ایک موقع پر یہ سوال بھی سامنے آیا کہ حضرت مسیح موعود کو تصویر نہیں کھجوانی چاہیے تھی۔ میں نے مختصراً جواب دیا کہ آنحضرتؐ کی حقانیت و صداقت کا سکہ اہل یورپ و امریکہ پر بٹھانے کے لیے تھی کیونکہ رسول خدا ﷺ نے مہدی موعود کا حلیہ مبارک چودہ سو سال قبل بتلادیا تھا (بخاری) حضرت مسیح موعود آج زندہ نہیں مگر ممالک عالم کا ہر فرد آپ کے فوٹو کو دیکھ کر منجر صادق آنحضرت ﷺ کی پیشگوئی کے پوری ہونے پر عینی گواہ بن سکتا ہے۔ حضرت اقدس اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں:

موعودم و بحلیہ ماثور آدمم
 حیف است، گر بدیدہ نہ بند منظم
 رگم چو گندم است و بمو فرق بین است
 ز انساں کہ آمدست در اخبار سرورم
 (المسیح الموعود)

78- ضلع ملتان کی ایک دیہاتی احمدی جماعت کے صدر اسی سال (۲۰۰۷ء) خاص طور پر مرکز میں تشریف لائے کہ انہیں ایک غیر احمدی دوست کو حضرت سلمان فارسی کے شجرہ نسب سے حضرت مسیح موعود کے آباء و اجداد کا نام دکھلانا مقصود ہے۔ میں نے انہیں اسماء الرجال کی قدیم اور مستند کتاب ”اسد الغابہ“ سے حضرت سلمان فارسی کے حالات کا عکس کرا کے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ دوسرے میں نے ان پر واضح کیا کہ آنحضرت ﷺ نے فقط یہ پیشگوئی فرمائی تھی ”من ہولاء“ کہ یہ موعود سلمان فارسی کی قوم میں سے ہوگا۔ (نہ یہ کہ آپ کی نسل میں سے)

79- حضرت خلیفۃ المسیح الثالث اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی قوم کے ہزار میں سے ۱۹۹۹ افراد شریف النفس ہیں۔ گو علماء سو سے مرعوب ہیں۔ میں نے یہ تجربہ سو فیصدی درست پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی زبان سے سخت ترین اعتراض کو بھی نہایت بشاشت، توجہ اور سنجیدگی سے سننے کا خوگر ہوں۔ ایک دفعہ کسی شوخ مزاج نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں ربوہ میں صرف جنت و دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی اور

گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اُن کا شکر یہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ اصولی بات کہہ کر ہم دونوں کا نہایت قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچالیا ہے۔ لہذا مجھے فقط یہ کہنا ہے کہ خدا کے تمام نبی زمین کو جنت نظیر بنانے کے لیے ہی آتے ہیں وگرنہ زمانہ تو ہر جگہ جہنم زار کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا آپ نہ صرف بہشتی مقبرہ دیکھیں بلکہ پورے ربوہ کی سیر کریں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شہر اپنے روحانی، علمی اور روحانی ماحول اور پاکیزہ فضا کے اعتبار سے یقیناً بہشت کا نمونہ ہے۔ یہی وہ مبارک بستی ہے جہاں ہر طرف سلام ہی کے نغمے گونج رہے ہیں۔ جیسا کہ کتاب اللہ نے جنتیوں کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ ﷺ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جنت کے ربوہ کا نام فردوس ہے۔ ”الفردوس ربوة الجنة“ (جامع الصغیر للسيوطی) اب میری درخواست ہے کہ آپ بہشت ربوہ میں مشاہدہ فرمالیجئے اور اگر دوزخ کا شوق زیارت بھی ہو تو ”چنیوٹ شریف“ تشریف لے جائیئے!!

80- ایک ادبی محفل میں قراردادے ستمبر زیر موضوع تھی۔ میں نے حاضرین کو بالخصوص اس پہلو کی طرف متوجہ کیا کہ قرارداد میں ہمیں احمدی کہلانے کی دستوری اور آئینی طور پر کھلی اجازت ہے اور حضرت مسیح موعود کے نزدیک احمدی کی قانونی تعریف یہ ہے کہ:

”احمدی ایک امتیازی نام ہے۔ احمد کے نام میں اسلام کے بانی

احمد ﷺ کے ساتھ اتصال ہے..... احمدی ایک امتیازی نشان ہے.....

خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ احمدی ہیں۔“

(اخبار ”بدر“ قادیان جلد نمبر ۳۲ صفحہ ۴۰۲)

81- ضلع مظفر گڑھ کے مشہور قصبہ علی پور میں جماعت احمدیہ کا ایک جلسہ عام ہوا جس میں

معزز غیر از جماعت بھی ذوق و شوق سے شامل ہوئے اور سوالات بھی کثرت سے ہوئے۔ ایک سوال

یہ تھا کہ احمدی ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے ساتھ تعلق نکاح و شادی پر کیوں ممانعت

ہے اور ہمارے بزرگوں کی نماز جنازہ پر کس لیے قدغن لگائی گئی ہے۔ حالانکہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔

جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں خاکسار خلافت ثانیہ و ثالثہ کے مبارک زمانہ میں اتمام حجت کے لیے ہر

سفر تبلیغ میں کتابوں کا صندوق ساتھ رکھتا تھا۔ بعد میں نوٹو کا پیوں نے بہت آسانی پیدا کر دی تو میں نے

بھی انہی کو ترجیح دی بلکہ پہلی بار جب میں مارچ ۱۹۸۵ء میں لنڈن آیا تو میرے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس لیے میں انڈیا آفس اور برٹش میوزیم کا ممبر بن گیا اور بہت سی کتابوں کے عکسی صفحات خود ”محمود ہال“ کی فوٹو اسٹیٹ مشین سے کر لیں اور یہ فوٹو کا پیاں مہیا کر کے ان کی فائلیں بنالیں۔ جن سے پورے یورپ میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اس ضمنی بات کے بعد اب میں بتاتا ہوں کہ جلسہ علی پور کے موقع پر بھی میں نے سٹیج پر بہت سی کتابیں سجا کے رکھی ہوئی تھیں۔ حسن اتفاق بلکہ خدا کا فضل دیکھئے میرے سامنے اس وقت معاند احمدیت مولوی عبدالاحد خانپوری صاحب کی کتاب ”اظہار مخادعت مسیلمہ قادیانی“ رکھی تھی۔ یہ کتاب انہوں نے ۱۹۰۱ء میں حضرت مسیح موعود کے اشتہار ”الصلح خیر“ کے جواب میں شائع کی تھی۔ جبکہ حضرت اقدس نے علماء زمانہ کو اس معاہدہ کی پیشکش فرمائی کہ فریقین تحریر و تقریر میں اخلاق اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قسم کی تحقیر و توہین، بدزبانی، ہجو اور سب و شتم سے مجتنب رہیں گے۔

میں نے یہ پس منظر بیان کرتے ہوئے حاضرین کو بتایا کہ مسیح محمدی کی اس دردناک اور مخلصانہ اپیل کے جواب میں مولوی عبدالاحد خانپوری صاحب نے حضور کو ”پولس ثانی“، مرتد، کافر اور مسیلمہ کذاب اور اسود عسی، ابو جہل اور فرعون و ہامان سے موسوم کرتے ہوئے گورہ افشانی کی کہ:

”باعث اس صلح نامہ کا یہ ہے کہ ”طائفہ مرزائیہ“..... بہت خوار و

ذلیل ہوئے۔ عید و جماعت سے نکالے گئے اور جس مسجد میں جمع ہو کر

نمازیں پڑھتے تھے اس میں سے بے عزتی کے ساتھ بدر کیے گئے۔.....

معاملہ و برتاؤ مسلمانوں سے بند ہو گیا۔ عورتیں منکوحہ و منطوبہ بوجہ مرزائیت

کے چھینی گئیں۔ مُردے اُن کے بے تجہیز و تکفین اور بے جنازہ گڑھوں میں

دبائے گئے۔“ (صفحہ ۳، مطبع چودھویں صدی راولپنڈی شہر)

اس تاریخی اور مستند حوالہ سے شرفاء کی گردنیں مارے شرم کے جھک گئیں اور میں نے بھی

درد بھرے الفاظ صرف اس بات پر اکتفا کیا کہ واقعی چودھویں صدی کے علماء بہت مظلوم ہیں اور احمدی

نہایت درجہ ظالم سفاک کیونکہ باوجودیکہ مدت تک ان کو مسجدوں سے بے عزتی کے ساتھ نکالا جاتا رہا

یہ لوگ ہمارے علماء کے پیچھے نماز ہی پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کی عورتیں نہایت بے دردی سے چھینی گئیں۔ اس انسانی مروت کے باوجود یہ فرقہ ہم سے شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہے۔ ہم نے مرزا نیوں کے بچوں تک کو بے تجہیز و تکفین اور بے جنازہ گڑھوں میں دبا دیا اور یہ سلسلہ اب بھی زور و شور سے جاری ہے مگر یہ ”احسان فراموش اقلیتی فرقہ“ ہمارے اکابر تک کی نماز جنازہ سے گریزاں ہیں۔

82- خلافت ثانیہ کے آخری دور کی بات ہے کہ خالد احمدیت حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس ناظر اصلاح و ارشاد اور حضرت مولانا شیخ مبارک احمد صاحب سابق رئیس التبلیغ مشرقی افریقہ اور خاکسار مرکز سے جلسہ سیرت النبی میں شمولیت کے لیے شہر رحیم یار خاں میں پہنچے۔ مگر وہاں پہنچتے ہی پتہ چلا کہ ہمارے ”کرم فرما“ علماء کے دباؤ میں ڈی سی صاحب ضلع نے جلسہ کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس پر میں نے سلسلہ کے ان بزرگ علماء ربانی کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ جلسہ پر ممانعت ہے مگر ہمیں بذریعہ تحریر علاقہ کے رؤساء، معززین اور عوام کو اس کی اطلاع دینے پر توجہ پابندی نہیں۔ حضرت مولانا شمس صاحب نے میرے خیال کی حمایت فرمائی اور مجھے ہی ایک دو ورقہ لکھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ میں نے ”جلسہ سیرت النبی ﷺ سے علماء رحیم یار خان کو شدید خطرہ“ کے عنوان سے مضمون دو ایک گھنٹہ میں لکھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہاں ہر قسم کے کلب، سینما گھر اور بد اخلاقی کے اڈے موجود ہیں مگر علماء رحیم یار خان نے کبھی ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا لیکن حال ہی میں انہیں جب احمدیوں کے ”جلسہ سیرت النبی“ کا پتہ چلا تو انہیں سخت خطرہ لاحق ہو گیا اور انہوں نے اسے بزور بند کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقدس تقریب پر احمدی مقررین نے کیا خطاب کرنا تھا؟ ہم اس کا ملخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

اس تمہید کے بعد حضرت مسیح موعود کے بارگاہ خاتم النبیین میں ہدیہ عقیدت کے نشری و شعری کلام کے چند رُوح پرور اور وجد آفرین نمونے سپرد قسطاں کیے گئے۔ خالد احمدیت حضرت مولانا شمس صاحب کے حکم سے راتوں رات یہ دو ورقہ چھپوایا گیا اور ضلع کے پُر جوش احمدی نوجوانوں نے عین اس وقت جب جلسہ سیرت النبی کے انعقاد کا پروگرام تھا، یہ پمفلٹ نہ صرف شہر

کے تمام حلقوں میں پہنچا دیا بلکہ رحیم یار خاں سٹیشن میں آنے جانے والی گاڑیوں میں بھی تقسیم کر کے اپنے خلوص کی ایک نئی مثال قائم کر دکھائی جو میرے قلب و سینہ میں اب تک نقش ہے۔ فجز اہم اللہ تعالیٰ

83-1985ء میں احراری دیوبندی مولویوں نے ضیاء کی پشت پناہی میں لنڈن میں ویبلے کانفرنس کا ڈھونگ رچایا۔ جس میں پچھلی صدی کے سب ناپاک اور گھسے پٹے اعتراضات کو دوہرایا۔ حضرت مسیح موعود اور حضور کے خلفاء کے خلاف نہایت اشتعال انگیز اور سب و شتم سے بھری ہوئی تقریریں کیں۔ کانفرنس میں آمرضیا کا یہ پیغام بھی پڑھا گیا کہ ہم قادیانیت کے کینسر کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے۔

کانفرنس کے ان اعتراضوں کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مولانا عطاء الحجیب صاحب راشد امام بیت الفضل لندن کی صدارت میں ایسٹ لندن کے ایک وسیع ہال میں جلسہ منعقد کیا گیا جس کا انتظام مولانا نسیم احمد باجوه صاحب مبلغ کراچیڈن کے مرہون منت تھا۔ اس تقریب میں خاکسار کو بڑی تفصیل سے تمام اہم اور ضروری اعتراضات کے جوابات دینے کی توفیق ملی۔ اطلاع ملنے پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی نے بہت خوشنودی کا اظہار کیا اور دنیا بھر کی جماعتوں میں اس کی کیٹیشیں بھجوانے کا بھی ارشاد فرمایا۔ بطور نمونہ کانفرنس کے تین اعتراضوں کے جوابات ہدیہ قارئین کرتا ہوں۔

سوال: مرزا طاہر احمد (د) چھپ کر انگلستان پہنچے ہیں۔

جواب: تاریخ مذاہب عالم سے ثابت ہے کہ خدا کے فرستادوں اور برگزیدوں نے ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہی ہجرت کی ہے۔

سوال: پاکستانی احمدی کلمہ طیبہ کا بیج کیوں لگاتے ہیں اور بے وجہ پولیس کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بننے اور قید کی صعوبتیں اٹھاتے ہیں؟

جواب: 1- احمدیت کے مخالف علماء صاحبان نے کلمہ طیبہ کے علاوہ بہت سے جعلی کلموں کو بھی فروغ دے رکھا ہے۔ مثلاً لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ مگر احمدی اپنے عمل سے اس باطل عقیدہ کے خلاف خاموش احتجاج کرتے اور مسلمانان عالم پر واضح کرتے ہیں کہ کلمہ صرف وہی ہے جو شہنشاہ نبوت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کو دربار الوہیت سے عطا ہوا۔

2- فرعون کی حکومت کے خلاف اسلام، خلاف اخلاق رسوائے عالم آرڈیننس سے یہ تاثر

ابھر رہا ہے کہ کلمہ طیبہ جو چودہ صدیوں سے بے شمار سعید روحوں کو حلقہ بگوش اسلام کرتا رہا ہے اب منسوخ ہو چکا ہے۔ احمدی ہزاروں بلکہ بیسٹھار مرتبہ کلمہ پڑھیں وہ قانوناً اس وقت تک مسلمان تسلیم نہیں کیے جاسکتے جب تک بھٹو جیسے سوشلسٹ وزیر اعظم اور علماء سو کی ناپاک سازش سے اسمبلی میں پاس ہونے والے نقلی، جعلی بلکہ فرضی کلمہ پر ایمان نہ لائیں۔ احمدی نوجوان اور بچے بیچ لگا کر نہایت پُر امن طریق سے عملاً منادی کر رہے ہیں کہ کلمہ محمد (ﷺ) قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا اور ہم اس کلمہ سے ساری دنیا کو خاتم النبیین ﷺ کے قدموں میں لانے کا عہد کرتے ہیں۔

84- غالباً ۱۹۹۲ء میں جبکہ فرینکفورٹ کے ایک حلقہ کی صدارت کے فرائض شاعر احمدیت

میر اللہ بخش صاحب تسنیم (راہوالی) کے صاحبزادے جناب میر عبداللطیف صاحب انجام دے رہے تھے۔ مولانا عطاء اللہ صاحب کلیم کی صدارت میں ایک محفل سوال و جواب ہوئی۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ موجودہ حالات میں جب کہ آپ کی جماعت پر پاکستانی حکومت مظالم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے، احمدی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟

اس نازک ترین سوال کے دو جواب خاکسار نے پیش کیے۔ اول یہ کہ جماعت احمدیہ سے

نصرت خداوندی کے جملہ وعدے اس شرط سے مشروط ہیں کہ ہم قانون کا احترام کریں اور اسے کبھی ہاتھ میں نہ لیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی دیکھئے آنحضرت ﷺ جب اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غارِ ثور میں چھپے ہوئے تھے تو اس نے آپ کے دفاع کے لیے آسمان سے توپ، ہندوق، تلوار، تھری ناٹ تھری کی رائفل یا گرنیڈ نازل نہیں کیے بلکہ مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈے سے شہ لولاک اور صدیق اکبر کی حفاظت کا سامان فرمایا اور دشمن کا ظالمانہ منصوبہ پیوند خاک ہو گیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی احمدی جو آج تک باوجود برسراقتدار حکومت، عدلیہ اور

ملاؤں کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، آنحضرت کی توجہ، دعا اور قوتِ قدسیہ سے محفوظ ہیں۔ بغاوت تو وہ کرے جو آنحضرت ﷺ کی نظرِ کرم سے محروم رہے اور ربِّ ذوالجلال کے قہر کا نشانہ بننے

ایسا معلوم ہوتا ہے جناب الہی کی طرف سے چودہ سو سال قبل آنحضرت ﷺ کو مدینہ میں ہم مظلوموں کا نظارہ دکھلایا گیا چنانچہ حضور نے پیشگوئی فرمائی:

”سیکون بعدی ناس من امتی یسد اللہ بہم الخور یوخذ
منہم الحقوق ولا یعطون حقوقہم اولئک منی وانا منہم۔ (کنز

العمال جلد ۲ صفحہ ۱۸، مطبوعہ بیروت و شام ۱۹۸۹ء)

میرے بعد میری امت میں ایسے مردان خدا ہوں گے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اسلام کی سرحدوں کو مضبوط کرے گا۔ (یعنی وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی بجائے کافروں کو مسلمان بنا سکیں گے۔ ناقل) ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تو معاشرہ اور ملکی دستور کے سارے حقوق ادا کریں گے مگر ان کے بنیادی حقوق تک سلب کر لیے جائیں گے۔ فرمایا (اُس زمانہ کی حکومت اور علماء خواہ کچھ فیصلہ کریں) یہ میرے ہیں اور میں اُن کا ہوں۔

85- ایک صاحب نے اپنا یہ نقطہ خیال سامعین کے سامنے فرمایا کہ اگر مہدی موعود کا چاند سورج گرہن بھی قانون قدرت کے عام قواعد کے مطابق ہوگا تو اس میں معجزہ کی کون سی بات ہے۔ میرا جواب یہ تھا کہ سب حضرات جانتے ہیں کہ آندھیاں، طوفان اور سمندر کا مد و جزر قانون قدرت کے مطابق ایک معمول کی بات ہے مگر وہ آندھی جو آنحضرت ﷺ کے سنگریزوں سے چلی وہ معجزہ تھا، جو طوفان نوح کے مخالفین کے لیے اٹھا معجزہ تھا اور دریائے نیل کا مد و جزر جس سے فرعون کا لشکر غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سلامت باہر آگئے معجزہ تھا۔ اسی طرح اگرچہ قانون قدرت کے مطابق آج تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں گرہن لگ چکے ہیں مگر یہ معجزہ پہلی بار چشم فلک نے دیکھا کہ ادھر ایک شخص نے خدا سے علم پا کر اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا، اُدھر دو تین سال کے اندر اندر چاند سورج گرہن نے اس کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ آپ مکمل تاریخ اسلام پڑھ جائیے یہ معجزہ کسی اور مدعی مہدویت کے وقت ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تصور کر کے اس آفاقی نشان کی عظمت بے انداز بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح دنیا بھر کے سائنس دان سنگریزوں سے فضا میں آندھی نہیں لاسکتے اسی طرح یورپ، امریکہ، چین اور برصغیر غرضیکہ سب دنیا کے ہیئت دان (ASTRONOMIST)

اور ان کی پشت پناہ حکومتیں اگر چاہیں کہ وہ کسی کو مہدی کھڑا کر کے اُس کی تائید میں آنحضرت ﷺ کی مقرر فرمودہ تاریخوں میں چاند سورج کا گرہن لگا دیں تو کھربوں پاؤنڈ اور ڈالر بے دریغ خرچ کرنے کے باوجود وہ حکومتیں بالکل ناکام و نامراد رہیں گی۔

86- حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نسبت کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ عزرائیل علیہ السلام دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے کسی مرید کی روح بھی قبض کر کے جو پر واز تھے کہ حضرت غوث اعظم نے دیکھتے ہی دیکھتے جھپٹ کر ان کی پوری زنبیل چھین لی جس سے سب رو جس اپنے اپنے جسموں میں لوٹ آئیں اور آپ کا مرید بھی دوبارہ زندہ ہو گیا۔

پاکستان کی ایک مجلس میں اس ”کرامت“ کا تذکرہ بھی ہوا تو خاکسار نے حضرت شیخ نور احمد صاحب مالک مطبع ریاض ہند امرتسر کی ایک مطبوعہ روایت کی روشنی میں جواب دیا کہ قرآن مجید نے سورہ نساء کے آخری رکوع میں نظام وراثت پر تیز روشنی ڈالی ہے مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کے اپنے گھر آجائے تو اسے اپنی جائیداد سے اس قدر حصہ ملے گا۔ یا اُسے عمر بھر محروم رہنا ہوگا۔ لہذا اگر فیج اعوج کے دور میں گھڑا ہوا عقیدہ صحیح فرض کر لیا جائے تو اس سے خود بخود دو نتائج برآمد ہوں گے۔ یا تو اقرار کرنا ہوگا کہ قرآنی نظام وراثت نامکمل ہے یا معاذ اللہ عالم الغیب خدا کو تو علم نہیں مگر ”علماء“ کو معلوم ہے کہ اولیا کرام کی کرامت سے حقیقی مردے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعودؑ کیا خوب فرماتے ہیں:

کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں
یہ تو فرقاں نے بھی بتلایا نہیں
عبد شد از کردگار بے چگون
غور کن در انہم لایرجعون

87- مدرسہ احمدیہ قادیان میں تحصیل علم کے دوران موسیٰ تعطیلات ہوئیں تو میں حضرت

مصلح موعودؑ کی پُر معارف تقریر ”سیر روحانی“ کی پہلی جلد بھی حضرت والد صاحب کی خدمت میں تحفہ لے کر آیا۔ اُن دنوں پنڈی بھشیاں کے پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر جناب قادر بخش صاحب بہت

شریف النفس بزرگ تھے اور میں بھی اُن کا شاگرد تھا۔ میں اُن کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور ”سیر روحانی“ بھی بغرض مطالعہ دی۔ اگلے ہی روز وہ کتاب ہاتھ میں تھامے ہوئے خاکسار کی قیام گاہ پر تشریف لائے اور مجھے یہ کتاب واپس کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ آپ نے ایک رات کے اندر اس کا مطالعہ فرمایا ہے جو میرے لیے عجوبہ سے کم نہیں۔ فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں۔ بات یہ ہوئی کہ ابھی میں نے اس کے چند صفحات کی سرسری سی ورق گردانی کی تھی کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی غیبی طاقت یا کوئی مقناطیسی قوت مجھے احمدیت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ جس سے میں گھبرا اٹھا ہوں اور خود چل کر کتاب واپس دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تاہم اسے ایک نظر دیکھتے ہی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج مرزا محمود احمد آپ کے امام سے بڑھ کر قرآن مجید کا کوئی عالم موجود نہیں۔ یہ کہتے ہی بڑی تیز سے واپس چل دیئے۔

88- ایک موقع پر برسبیل تذکرہ احراری لیڈروں کے علمی مقام کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا کہ اُن کی بصیرت کے کیا کہنے۔ یہ لوگ واقعی ذہین و فریس ہیں اور سیاسی شعور اور بالغ نظری میں بہت کمال رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنا نام دسمبر ۱۹۲۹ء سے احرار رکھا ہے جو حق کی جمع ہے جس کے لغات میں کئی معنی ہیں مثلاً آزاد، سفید کبوتر اور سانپ کا بچہ۔ دوسری طرف ہمیں مرزائی کہتے ہیں جس کے ایک لغوی معنی شہزادگی اور پارسائی کے ہیں۔

89- لاہور کے متعدد اشاعتی اداروں سے میرے ذاتی روابط و مراسم ہیں اور میرا ہمیشہ سے یہ طریق رہا ہے کہ ذاتی سفر بھی ہو تو کوئی ضروری کتاب یا لٹریچر پیغام حق کی خاطر ضرور ساتھ رکھتا ہوں۔ اسی طرح کتب فروشوں کو ان کی کتابوں کا ہدیہ پیش خدمت کرنے کے بعد کوئی کلمہ حق ضرور پہنچا دیتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک فرض نمازوں کے تو پانچ اوقات مقرر ہیں مگر دعوت الی اللہ کے لیے کوئی وقت شارع علیہ السلام نے مخصوص نہیں فرمایا۔ یہ نماز جنازہ کی طرح فرض کفایہ نہیں بلکہ ہر احمدی پر چندہ سے بڑھ کر واجب ہے۔

اسی دائمی جذبہ کے ساتھ ایک دفعہ میں نے دیوبندیوں کے قدیم کتب خانہ ”ادارہ اسلامیات“ (نیلا گنبد لاہور) سے ہزاروں روپے کا جدید لٹریچر خریدا اور ناظم ادارہ کی

خدمت میں ان کی قیمت پیش کی اور پھر اپنے دستور کے مطابق ان کی توجہ اس نقطہ کی طرف دلائی کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ملکی تقسیم کے وقت پنجاب کے سکھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے کانگریس کی سرپرستی میں اعلان کیا کہ ہم پنجاب میں خالصتاً بنائیں گے..... کہ دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی پنجاب کا علاقہ (سوائے قادیان کے) مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ وگرنہ صوبہ پنجاب بھی مسلم اکثریت کا صوبہ تھا۔ اس لیے پاکستان کی حدود پانی پت تک ہونی چاہیے تھی۔

ناظم ادارہ نے جو کٹر دیوبندی تھے میرے اس نظریہ کی پُر زور تائید کی جس پر میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات برٹش انڈیا اور پاکستان دونوں میں یہ ”جہاد“ کر رہے ہیں کہ کسی طرح کلمہ گوؤں کو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے کا معرکہ سر کیا جائے۔ لیکن بانی جماعت احمدیہ نے ۱۸۹۵ء میں ”ست یجن“ شائع کر کے یہ انکشاف کیا کہ سکھ مذہب کے بانی حضرت بابا نانک..... جس پر ان کا چولہ اور پوتھی اور گرنٹھ صاحب کے شبہ مجسم گواہ ہیں۔ اس لیے مسلمان علماء کو چاہئے کہ ان کی قوم کو جلد سے جلد داخل اسلام کر لیں۔ اگر ہمیں کافر قرار دینے والے ”بزرگ علماء“ اس تحریک میں بانی سلسلہ کا ساتھ دیتے تو ۱۹۴۷ء تک سکھوں کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہوتی۔ نہ تقسیم پنجاب کا شاخسانہ کھڑا ہوتا اور نہ سپین کی طرح مظلوم..... سے ذبح ہوتے اور نہ..... اس صورت میں پاکستان کی وسعتوں کا نقشہ ہی بالکل اور ہوتا اور آج ہم دنیا بھر کی ترقی یافتہ اقوام خصوصاً چین سے بہت آگے ہوتے جسے ہم سے دو ایک سال بعد آزادی نصیب ہوئی۔

تاریخ کے اس پوشیدہ گوشہ کی بے نقابی نے ”مولانا“ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ خصوصاً اس وقت جبکہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے مشہور ادارہ نے حضرت بابا نانک..... کے بارہ میں بھی ریسرچ کر کے کوئی جامع کتاب سپر اشاعت فرمائی ہے۔ میرے اس سوال کا جواب انہوں نے افسوس بھرے الفاظ میں مکمل نفی میں دیا۔ اس مرحلہ پر میں نے اپنی ایک احمدی دانشور منشی امیر محمد خاں صاحب مینچر بک ڈپو قادیان کی مشہور تالیف ”گرنٹھوں میں نور اسلام“ دکھائی۔ (جو میں اپنے بیگ میں انہی کو نذر کرنے کے لیے ربوہ سے لایا تھا) یہ کتاب اکتوبر ۱۹۴۴ء میں پہلی بار قادیان سے چھپی۔ اب پاکستان میں بھی چھپ چکی ہے اور کئی معزز سکھوں کو دی جا چکی ہے۔

ناظم ادارہ اس معرکہ آرا کتاب کا سرورق اور اوراق دیکھتے ہی اس پر گویا فریفتہ ہو گئے اور مجھ سے بادب درخواست کی کہ آپ مجھے یہ علمی پارہ عنایت فرما سکتے ہیں۔ میں تو خود انہیں یہ تحفہ دینے کے لیے بے قرار تھا۔ ان کے اشتیاق اور بے قراری کو غنیمت سمجھتے ہوئے ”نور اسلام“ فوراً ان کے ہاتھ میں تھما دی جس کا انہوں نے بہت شکر یہ ادا کیا۔

یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ پاکستان میں ۱۹۵۳ء کے فسادات کا آغاز دراصل ۱۹۵۱ء میں مولوی شبیر عثمانی صاحب کی اشتعال انگیز کتاب ”الشہاب“ سے ہوا۔ اس کتاب میں مؤلف نے ۱۹۴۴ء میں کابل کے دو بزرگ احمدیوں کی سنگساری کو سنت نبوی کے احیاء سے تعبیر کیا اور افغانستان حکومت کو اس پر خراج تحسین ادا کیا۔ پاکستان میں ”الشہاب“ کا پہلا ایڈیشن ادارہ اسلامیات ہی نے شائع کیا جس نے ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف آگ لگادی جو مارچ ۱۹۵۳ء کے مارشل لا پر منتج ہوئی۔

ہے بہت سہل مسلمان کو کافر کہنا
کاش کوئی کافر مسلمان بنایا ہوتا

90- حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے حکم پر ناچیز کو سرگودھا کی ایک خصوصی مجلس مذاکرہ میں شرکت کی توفیق ملی جو حضرت مرزا عبدالحق صاحب ایڈووکیٹ امیر صوبائی کی کوٹھی میں منعقد ہوئی۔ دعوت الی اللہ کی یہ نشست اول سے آخر تک نہایت درجہ خوشگوار ماحول میں ہوئی اور بہت سی دلچسپیوں اور علمی نکتوں کا مرکز بنی رہی۔ اس یادگار مذاکرہ کا آغاز ایک بزرگ عالم دین کے دوپڑ جوش سوالات سے ہوا۔ جن کی نسبت آپ کا ادعا تھا کہ آج تک مجھے کوئی احمدی فاضل ان کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔

پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کی جلدوں کی اشاعت کا وعدہ کیا مگر صرف پانچ چھاپنے کے بعد یہ کہہ کر ٹرٹا دیا کہ پانچ اور پچاس میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ فارمولا حضرت اقدس کا نہیں عرش کے خدا کا ہے کیونکہ اُس نے شب معراج میں اپنے محبوب ترین رسول اور نبیوں کے شہنشاہ سے فرمایا کہ پانچ نمازوں کو ہمیشہ پچاس کے برابر سمجھنا (بخاری کتاب الصلوٰۃ) اس ربانی کلام کا صاف مطلب یہ تھا کہ پانچ فرض نمازوں کا ثواب اس کے

دربار سے پچاس گنا عطا کیا جائے گا اسی طرح میں کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے پچاس کتابوں میں جن معارف کے لکھنے کا ارادہ فرمایا وہ اعجازی طور پر پانچ جلدوں میں ہی ریکارڈ ہو گئے اور ساتھ ہی ایسا فصل ربانی ہوا کہ پہلی چار جلدوں میں جو پیشگوئیاں کی گئی تھیں وہ پانچویں جلد سپرد قلم ہونے سے قبل حیرت انگیز طور پر معرض وجود میں آگئیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں جو غور سے سننے کے لائق ہے۔ ایک شخص کسی کو ایک روپے کے پچاس نوٹ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ مگر بجائے ایک ایک روپے کے پچاس نوٹ دینے کے دس دس روپے کے پانچ نوٹ اس کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اب فرمائیے کہ یہ پانچ پچاس کے برابر ہوئے یا نہیں۔ مولوی صاحب اس پر لطف مثال سے بہت محظوظ ہوئے اور کہا کہ میری تسلی ہو گئی ہے۔

دوسرا سوال اُن کی طرف سے یہ کیا گیا کہ آیت "لَوْ تَقُولُ" (الحاقہ: ۴۷) میں کوئی معیار صداقت بیان نہیں ہوا یہ آنحضرتؐ کو خطاب ہے اور آنحضورؐ ہی کی ذات سے مخصوص ہے۔ خاکسار نے حاضرین سے کہا کہ میں اس اہم سوال کا جواب خاتم النبیین محمد عربیؐ کی حدیث مبارک سے دیتا ہوں۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے جب ایک چوری کرنے والی عورت کی سفارش کی تو دربار نبوی سے ارشاد ہوا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ (بخاری کتاب الحدود) مولانا صاحب بتائیے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلامی تعزیرات کا کوئی اصولی بیان ہوا ہے یا اس کا تعلق صرف حضرت فاطمہ کی ذات سے تھا اور دوسرے لفظوں میں آنحضرتؐ کا فرمان تھا کہ اگر فاطمہ اس جرم کا ارتکاب کرتی تو انہیں قطع ید کی ضرور سزا دی جاتی۔ باقی سب لوگوں کو کھلی چھٹی ہے وہ سرقہ کریں یا ڈاکہ ماریں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس تشریح پر اس بزرگ کو کھلے بندوں اعتراف کرنا پڑا کہ آنحضرتؐ نے اپنی نور چشم حضرت فاطمہ الزہرا کا نام اس تعزیری قانون پر مزید زور دینے کے لیے لیا اور واضح فرمایا کہ چوری تو ایسا خطرناک جرم ہے کہ (معاذ اللہ) میری بیٹی بھی اس کی مرتکب ہوتی تو میں اسے بھی سزا دیے بغیر ہرگز نہ چھوڑتا۔

اب میرے لیے اس کلمہ حق کے جاری بر زبان ہونے کے بعد سامعین کو یہ یقین دلانے میں کوئی مشکل نہ رہی کہ آیت ”لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ“ میں خالق کائنات کے ازلی ابدی تعزیری دستور و قانون کا تذکرہ ہے۔ جس کے سامنے برطانوی استعمار یا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مملکت کو دم مارنے کی مجال نہیں اور جس کو ناکام بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس یہ نقطہ نگاہ کہ یہ آیت کوئی اصول بیان نہیں کرتی بلکہ صرف یہ اشارہ کرتی ہے کہ باقی مفتری بے شک دندناتے رہیں لیکن معاذ اللہ رسول اللہ اس کا ارتکاب کرتے تو آپ کی شہ رگ ضرور کاٹ دی جاتی۔ آنحضرت ﷺ کے شان مبارک کی کھلی گستاخی ہے۔

کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افترا
ہوگا وہ قتل ، ہے یہی اس جرم کی سزا
(مسح موعود)

یہ بزرگ دونوں سوالات کا جواب سننے کے بعد فرمانے لگے کہ اب مجھے احمدی ہی سمجھئے مگر بیعت فارم پر دستخط نہیں کروں گا۔ ناچیز نے نہایت ادب و احترام سے انہیں نصیحت کی کہ بیعت فارم تو آنحضرت ﷺ کے اس تاکید فرمان پر عمل کی زندہ دستاویز ہے کہ آپ کو آنحضور کے ارشاد کی تعمیل میں واقعی خلیفۃ اللہ المہدی کی بیعت کا اعزاز حاصل ہے۔

مجھے ربوہ آنے کے کچھ عرصہ بعد ایک غیر مصدقہ اطلاع ملی کہ اس سعید الفطرت بزرگ عالم دین نے بیعت فارم پر بھی دستخط کر دیئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج
جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار

(دس ملکی وغیر ملکی شخصیات سے ملاقات)

جناب سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب:

سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب اور ان کے رفقا برٹش انڈیا کے زمانہ سے یہ پراپیگنڈا کرتے آرہے تھے کہ جمہوری اسمبلیوں کی رکنیت بھی حرام اور ان کو ووٹ دینا بھی حرام ہے۔ (رسائل و مسائل) جمہوری انتخاب زہریلے دودھ کا مکھن ہے۔ چونکہ ہزار میں سے ۹۹۹ مسلمان کافرانہ ٹائپ رکھتے ہیں اس سے کسی بھی جمہوری انتخاب سے نظام اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ (مسلمانان ہند کی سیاسی کشمکش حصہ سوم)

جناب مودودی صاحب ۳۱ اگست ۱۹۴۷ء کو دارالاسلام (پٹھان کوٹ) چھوڑ کر لاہور میں پناہ گزین ہوئے جس کے بعد پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کے لیے ”اسلام“ کا نعرہ بلند کیا اور جب پہلا صوبائی انتخاب ہوا تو آپ نے ”انتخابی جدوجہد“ پمفلٹ میں احادیث سے ثابت کیا کہ عہدہ طلبی سراسر حرام ہے۔ نیز ”دو دستوری خاکے“ میں برسر اقتدار مسلم لیگی حکومت کے خلاف ملک گیر پراپیگنڈا کیا کہ انتخابی پراپیگنڈا کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسی پر بس نہیں جماعت اسلامی کے ترجمان ”کوثر“ (۲۸ جنوری ۱۹۵۰ء) نے انتخابی مہم کو کتوں کی دوڑ سے تشبیہ دے کر صوبائی انتخاب میں شامل ہونے والی سب سیاسی جماعتوں کی ضیافت ”صالح مغلظات“ سے فرمائی۔

پاکستان کے پہلے صوبائی انتخابات کے دوران میں جامعۃ المبشرین کا طالب علم تھا۔ مجھے اخبارات سے پتہ چلا کہ جناب مودودی صاحب مع اپنے رفقاء کے انتخابی اور طوفانی دورہ پر چینیوٹ تشریف لارہے ہیں اور پرانی سبزی منڈی میں خطاب عام بھی فرمائیں گے۔

میں ۱۹۴۸ء کے اوائل میں لاہور گیا تو مختصری ملاقاتیں حضرت مولانا محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور اور علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کے علاوہ جناب سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی بانی

جماعت اسلامی سے بھی ملاقات ہوئی۔ جناب مودودی صاحب بہت تپاک سے ملے اور اپنی دو کتابیں ”شہادت حق“ اور ”دین حق“ تحفہ مرحمت فرمائیں۔

”شہادت حق“ میں آپ نے جماعت اسلامی کی امتیازی شان ان الفاظ میں بتائی ہے ”دعووں اور خوابوں اور کشف و کرامات اور شخصی تقدس کے تذکروں سے ہماری تحریک بالکل پاک ہے۔“ (صفحہ ۳۶) یہ رسالہ دراصل ایک تقریر ہے جو انہوں نے قیام پاکستان سے صرف ساڑھے سات ماہ قبل مرادپور (ضلع سیالکوٹ) میں فرمائی جس کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ ”ہمارا خدا ہمیشہ سب کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجتا تھا۔ اب وہ موجود نہیں اس لیے میں بھی صرف دعوت کا وہی حصہ پیش کروں گا جو مسلمانوں کے لیے خاص ہیں۔“ ازاں بعد عامۃ المسلمین اور ان کے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کا ”پوسٹ مارٹم“ کیا اور بتایا کہ ہمارے وکیل، مجسٹریٹ اور جج کی عملی شہادت یہ ہے کہ اسلام کے سارے قانون غلط ہیں۔ ہماری قوم کا نظام کافروں کا چربہ ہے۔ ہمارے مذہبی اور سیاسی پیشوا وہی کہتے ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں سے سیکھا ہے۔ مسلمانوں کا تصور قانون الہی ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے اور مسلمان کا نام ذلت و مسکنت اور پس ماندگی کا نشان بن گیا ہے۔ اس لیے مسلمان اسلام کا لیبل اتار کر کھلم کھلا کفر اختیار کر لیں۔ اسلام جماعت کے بغیر نہیں اور جو جماعت میں نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

رسالہ ”دین حق“ کا موضوع یہ ہے کہ ”اگر کوئی خدا رہنمائی کے لیے موجود نہیں..... تو انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ خودکشی کرے۔ جس مسافر کے لیے نہ کوئی رہنما موجود ہو اور نہ جس کے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں اس کے لئے یاس اور کامل یاس کے سوا کچھ مقدور نہیں اور اگر خدا ہے لیکن رہنمائی کرنے والا خدا نہیں ہے..... تو یہ اور بھی زیادہ افسوسناک صورت حال ہے۔ رویئے اس پوری نوع کی مصیبت پر، جو اس بیچارگی کے عالم میں چھوڑ دی گئی..... یہ سب کچھ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو اسے زمین پر وجود میں لایا ہے مگر وہ بس پیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے اور رہنمائی کی پروا نہیں کرتا۔“ (صفحہ ۳۰)

لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں
جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں

دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی
 حسن و جمال یار کے آثار ہی نہیں
 (المسح الموعود)

ان رسائل سے میری فوری توجہ جماعت اسلامی کے مطالعہ کی طرف ہوئی اور اسی پر میں نے ریسرچ کر کے ”جامعۃ المبشرین“ سے ”شاہد“ کی ڈگری حاصل کی۔ عنوان مقالہ تھا ”مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی تحریک پر تبصرہ“ سیدنا حضرت مصلح موعودؑ نے خود ہی عنوان تجویز فرمایا۔ اس کے نمایاں خدوخال پر بلیغ روشنی ڈالی اور اس غلامِ درکی ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی۔ استاذی المکرم خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالندھری نے مئی ۱۹۵۵ء کے الفرقان میں یہ پورا مقالہ سپرد اشاعت فرمادیا۔ جس پر حضرت حافظ سید مختار احمد صاحب مختار شاہ جہانپوری نے اظہارِ مسرت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”اس مقالہ سے میری ایک دیرینہ تمنا برآئی ہے۔“ یہ مقالہ منظر عام پر آیا تو جماعتِ اسلامی کے ایک ممتاز رہنما جناب مولوی گلزار احمد صاحب مظاہری خاص طور پر مجھے ملنے کے لیے ربوہ تشریف لائے اور اپنے نقطہ نظر سے اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی فرمایا۔

دو سال بعد جلسہ سالانہ ۱۹۵۱ء کے شبینہ اجلاس میں حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد کی فرمائش پر مجھے ”جماعت اسلامی پر تبصرہ“ کے زیر عنوان جلسہ سالانہ کے مقدس سٹیج سے پہلی بار تقریر کی سعادت نصیب ہوئی جو اللہ کے فضل و کرم سے خاص طور پر نوجوانان احمدیت میں غیر معمولی طور پر مقبول ہوئی اور صیغہ اشاعت نے ۱۹۵۸ء کی مشاورت کے موقع پر اسے شائع بھی کر دیا۔ جس کا حضرت مصلح موعودؑ نے ممبران مشاورت میں خاص طور پر تذکرہ فرمایا اور اس کی خرید کی تحریک فرمائی۔

اب میں جناب مودودی صاحب کی دلچسپ ملاقات کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان میں پہلے صوبائی انتخابات کی سرگرمیاں صوبہ میں عروج پر تھیں کہ پریس نے خبر دی کہ مودودی صاحب اپنے بعض رفقاء کے ساتھ ایک طوفانی انتخابی دورہ فرما رہے ہیں اور سرگودھا کے بعد چنیوٹ کی پرانی منڈی کے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ میں نے حضرت پرنسپل صاحب سے اجازت حاصل کی

اور اپنی کلاس کے دوسرے طلبہ کے ساتھ خطاب سننے کے لیے چنیوٹ پہنچ گیا۔ مودودی صاحب نے دہلی کی نہایت شستہ زبان میں اپنی جماعت کا تعارف کرایا اور کئی سوالات کے نہایت قابلیت اور عمدگی سے جواب بھی دیئے۔ ساتھ ہی سامعین کو دعوت دی کہ وہ مزید استفسارات کے لیے میری قیامگاہ (مکان شیخ فیروز دین صاحب) پر تشریف لے آئیں۔ مجھے اپنے دوسرے دوستوں کا علم نہیں مجھ پر مودودی صاحب کی اس برجستہ، شائستہ اور متین خطاب کا گہرا اثر ہوا۔ چونکہ آج تک میں نے دوسرے فرقوں کے علماء کی تقریر میں سنجیدگی کا ایسا رنگ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خصوصاً سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب جن کی ایک تقریر میں نے مرید کے میں احراری سٹیج پر بیٹھے سنی تھی۔ عنوان ”ختم نبوت“ تھا مگر زبان بازاری تھی جس سے سخت بیزار ہو کر کئی لوگ پنڈال سے بھاگ گئے۔ جناب مودودی صاحب نے اپنی تقریر میں خاص طور پر یہ بتایا کہ برٹش انڈیا میں غیر ملکی حکومت تھی اس لیے نظام اسلامی کا قیام عملاً ناممکن تھا۔ لیکن اب خدا کے فضل سے افق عالم پر پاکستان کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ یہاں نفاذ اسلام کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں اور اس کے لیے سردھڑکی بازی لگا دیں۔ اس لیے پنجاب الیکشن کے لیے ہم نے یہ عہد نامہ شائع کیا ہے کہ ووٹر صرف اس امیدوار کو ووٹ دیں جو اسمبلی میں اسلامی دستور نافذ کرنے کا اقرار کرے۔ اس ضمن میں جماعت اسلامی نے ”اسلامی پنچائتوں“ کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔

جناب مودودی صاحب کی تقریر ختم ہوتے ہی ہم سب طلبہ اُن کی قیام گاہ پہ پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھتے ہی ایک احراری ملا (عتیق الرحمن) نے اُن سے پوچھا کہ کیا وہ مرزائیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جناب مودودی صاحب نے بے ساختہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ کرنا اسمبلی کا کام ہے۔ ہمارا کام پاکستان میں دستور اسلامی کا نفاذ ہے۔ مودودی صاحب چاہتے تو مجمع کو خوش کرنے کے لیے اپنا عقیدہ بتا سکتے تھے کہ میں انہیں کافر و مرتد سمجھتا ہوں جیسا کہ ہندوستان میں وہ اپنے رسالہ ”ترجمان القرآن“ میں لکھ چکے تھے مگر انہوں نے ایسا شریفانہ و حکیمانہ جواب دیا کہ میرا دل عیش عیش کراٹھا۔

بخدا ہم اُن سے سوالات کرنے ہرگز نہیں گئے تھے۔ صرف جلسہ عام اور پرائیویٹ مجلس میں اُن کے اسلوب بیان اور انداز فکر سے متعارف ہونا مقصود تھا۔ لیکن اُن کا جواب سن کر مجھے بھی اُن

سے کچھ دریافت کرنے کی جرأت پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے اُن کی خدمت میں ادب و احترام سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنے فصیح و بلیغ خطاب عام میں پاکستان کو نیا ستارہ قرار دے کر امید دلائی ہے کہ انتخاب کے ذریعہ اب نظام اسلامی کا قیام عمل میں آسکتا ہے۔ یہ عمدہ تخیل ہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی پاکستان سے اسلامی معاشرہ کے معرض وجود میں آنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں تو آپ نے تحریک پاکستان کی مخالفت کیوں کی؟ مجھے سخت افسوس ہے کہ آپ جیسے ”مفکر اسلام“ جنہیں قائد اعظم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اُن ایام میں ہمیں ایک سٹیج پر گاندھی جی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔

اس سوال نے مودودی صاحب پر گویا ایک بجلی سی گرا دی اور آپ نے نمائشی شرافت کا پردہ چاک کر کے مجھے ”کذاب“ کے لقب سے نوازا اور فرمایا کہ یہ سراسر غلط ہے۔ میں نے ہمیشہ پاکستان کی تائید کی ہے یہ پراپیگنڈا ہمارے مخالف کیمپیوں کا ہے۔ اب خدا کی قدرت نمائی ملاحظہ ہو چند روز قبل مجھے مرکز کی طرف سے مجاہد روس حضرت مولانا ظہور حسین صاحب کے ساتھ قصور شہر کے جلسہ سیرت النبیؐ میں شرکت کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ واپسی پر میں نے اچھرہ کے مرکز جماعت اسلامی سے کچھ لٹریچر حاصل کیا جس میں رسالہ ”ترجمان القرآن“ مارچ ۱۹۴۶ء کا پرچہ بھی تھا۔ باقی لٹریچر تو ہوٹل میں رکھا تھا لیکن جونہی مودودی صاحب نے ”صالح لقب“ سے سرفراز فرمایا، مجھے خیال آیا کہ یہ رسالہ تو میرے کوٹ میں موجود ہے۔ جناب مودودی صاحب نے مجھے ایک نادان دیہاتی طالب علم سمجھ کر غلط بیانی کی جسارت کی تھی۔ میں نے اُن کے سامنے اصل رسالہ رکھ دیا جس میں انہوں نے کھل کر تحریک پاکستان کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اصل رسالہ دیکھتے ہی مودودی صاحب نے ایک شاطر وکیل کا کردار ادا کرتے ہوئے یکا یک پینتر بدلا اور ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا ہے میں نے واقعی لکھا تھا مگر یہ اس زمانہ کی بات ہے جب محمد علی جناح، لیاقت علی، عبدالرب نشتر اور دوسرے مسلم لیگی زعماء کے سامنے پاکستان کا کوئی واضح نقشہ نہیں تھا نہ انہیں علم تھا کہ وہ مطالبہ پاکستان کس غرض سے کر رہے ہیں؟

اس جواب نے مولانا کی ”اسلامیت“ پوری طرح بے نقاب کر ڈالی جس کا مجھ پر شدید رد عمل ہوا۔ میں نے بانی جماعت اسلامی کو مخاطب کرتے ہوئے جو تبصرہ کیا وہ کم و بیش ان الفاظ میں تھا کہ آپ کے جواب نے میرے آگینہٴ محبت و عقیدت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ ایک ”مفکر اسلام“ کی

زبان سے اس خلاف حقیقت تو جہہ کی قطعاً امید نہیں تھی کیونکہ یہ پرچہ جس میں آپ نے تحریک پاکستان پر شدید گولہ باری کی ہے مارچ ۱۹۴۶ء کا ہے جبکہ تین ماہ قبل آل انڈیا مسلم لیگ نے مرکزی انتخابات میں تمام مسلم نشستوں پر قبضہ کر لیا اور قائد اعظم کی ہدایت پر پورے ملک میں جشن فتح منایا گیا۔ ازاں بعد مارچ ۱۹۴۶ء کے صوبائی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسرے تمام نیشنلسٹ اور کانگریسی امیدواروں کو زبردست شکست دی۔ کیا آپ اس وقت ہم طالب علموں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مرکزی اور صوبائی فتوحات کے زمانہ تک قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیگی قائدین کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کی تحریک پاکستان کی غرض و غایت کیا ہے؟ اور مسلمانان ہند بھی آنکھوں پر پٹی باندھے اندھا دھند مسلم لیگ کے حق میں ووٹ ڈال رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ۱۹۴۶ء یعنی پاکستان کے نقشہ عالم پر ابھرنے سے ایک برس قبل بھی تحریک پاکستان محض ایک معمہ اور چیتان بنی ہوئی تھی؟؟

میں یہاں تک ہی کہنے پایا تھا کہ مودودی صاحب جلال میں آگئے اور فرمایا اب ہمارے کھانے کا وقت ہے۔ مجلس برخاست کی جاتی ہے لیکن میں نے ادب سے درخواست کی کہ آپ مجھے صرف ایک اور مختصر سوال پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میری اس یقین دہانی پر انہوں نے کمال فریادگی سے مجھے اجازت بخشی۔ میں نے اُن کی کتاب ”تجدید و احیائے دین“ سے تیرھویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد بریلویؒ کی اسلامی حکومت کی ناکامی کا یہ سبب اُن کے الفاظ میں بیان کیا کہ انہوں نے نام کے مسلمانوں کو حقیقی مسلمان سمجھ کر دھوکہ کھایا لہذا تاریخ کا یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس انقلاب کی جڑیں اخلاق و تمدن میں جمی ہوئی نہ ہوں نقش بر آب ہوتا ہے اور اگر عارضی طاقت سے قائم بھی ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے پیوند خاک ہو جاتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ حضرت سید احمد بریلویؒ مجدد تھے۔ اُن کا لشکر پورے ہندوستان کے پاسا اور خدارسیدہ بزرگوں پر مشتمل تھا۔ دوسری طرف صورت یہ ہے کہ آپ مجدد نہیں اور جیسا کہ آپ نے ”مسلمانان ہند کی سیاسی کشمکش“ میں تصریح فرمائی ہے کہ موجودہ مسلمان ہزار میں سے ۹۹۹ کا فرانہ ناپ رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر جمہوری انتخاب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسلام نہیں لایا جاسکتا۔ جب دودھ ہی کڑوا ہے تو بالائی کیونکر میٹھی ہو سکتی ہے۔ اب بتائیے کہ اس صورت میں صوبائی اسمبلی کے لیے آپ اور آپ کی جماعت کا انتخابی دوڑ میں حصہ لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟

”مولانا“ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ محض ایک تجربہ ہے۔ ممکن ہے کامیاب ہو یا ناکام رہے۔ میں نے اُن سے جاننے کی اجازت چاہی اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ جس معاملہ میں مجدد ناکام رہے آپ کی کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے مخصوص سیاسی مقاصد ہیں جن کو بروئے کار لانے کے لیے آپ سادہ مسلمان عوام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

رپورٹر اخبار ٹائمز لندن:

جلسہ سالانہ ۱۹۷۴ء کے موقع پر لندن کے روزنامہ ”ٹائمز“ کی ایک کرپشن رپورٹر خاتون ربوہ میں آئیں۔ دفتر شعبہ تاریخ میں مہمانوں کا نجوم تھا۔ انہوں نے بھی آتے ہی یہ سوال کیا کہ فیصلہ اسمبلی کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے صرف یہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ اسلام قرآن اور محمد رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ کیونکہ حدیث مندرجہ مشکوٰۃ میں آنحضرت ﷺ کی یہ پیشگوئی موجود ہے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کے بہتر فرقے آگ لگانے میں اکٹھے ہو جائیں گے اور تہتویں فرقے کو الگ کر دیں گے اور ایک عارف باللہ حضرت علامہ علی القاری نے (مرقاۃ جلد ۱ میں) خدا سے علم پا کر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ تہترواں فرقہ ”فرقہ احمدیہ“ ہوگا۔ خاکسار نے اصل دستاویزی ثبوت پیش کرنے کے بعد کہا کہ اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں اس نوع کی کسی پیشگوئی کی نظیر نہیں مل سکتی۔

مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت

اُس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے

ان معروضات سے غیر از جماعت معززین بھی بہت متاثر ہوئے۔ فالحمد للہ علی احسانہ

اکابر علمائے اہلحدیث:

مرکزی جمعیت اہلحدیث مغربی پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالہ کے باغ جناح میں ۱۲، ۱۳، ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۶ء کو ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں پہلی بار حضرت سید احمد بریلویؒ شہید بالا کوٹ کا جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ جھنڈا کالا باغ علاقہ ہزارہ کے کراہل قوم کے اہلحدیثوں کے پاس

محفوظ تھا۔ اُن دنوں جمعیت کے صدر سید داؤد غزنوی اور ناظم اعلیٰ مولوی محمد اسماعیل تھے۔ اس تاریخی تقریب پر بعض اہلحدیث حضرات نے گوجرانوالہ کے امیر جماعت احمدیہ جناب میر محمد بخش صاحب ایڈووکیٹ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس میں آپ کی جماعت کی بھی نمائندگی ہونی چاہئے۔ جس پر مرکز سے مجھے بھجوایا گیا۔ مجھے سٹیج پر جگہ دی گئی۔ جہاں میں نے جھنڈا کی بھی زیارت کی اور بعض اکابر علمائے اہلحدیث سے گفتگو کا موقع بھی میسر آیا۔

ایک اہلحدیث عالم دین نے دریافت کیا کہ توحید اور رد شرک کے معاملہ میں اہلحدیث اور احمدی دونوں ایک سا خیال رکھتے ہیں اور دونوں عرس، قبر پرستی اور دیگر مشرکانہ رسوم سے بیزار ہیں۔ آخر ہمارا اختلاف کیا ہے؟ میں نے وقت اور موقع کی مناسبت سے عرض کیا۔ بنیادی اعتبار سے صرف دو فرق ہیں۔ پہلا یہ کہ احمدیت کا مقصد توحیدِ خالص کا قیام ہے اسی لیے ہم کسی ولی بلکہ کسی نبی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خاص صفات سے متصف ماننے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ اہلحدیث بزرگوں کے نزدیک قافلہ مجددیت تیرہویں صدی ہجری میں پہلے رائے بریلی میں پہنچا پھر بالا کوٹ میں آ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا لیکن ہمارے نزدیک یہ مقدس کاروان چودھویں صدی میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی قیادت میں قادیان سے اٹھا اور اب ربوہ میں اپنی شان کے ساتھ رواں دواں ہے۔

یاد آیا کہ ایک بار مجھے اہلحدیث عالم مولوی محمد اسماعیل ذبح خطیب جامع مسجد راولپنڈی کا درس سننے کا اتفاق ہوا۔ (آپ نے اس کانفرنس میں بھی خطبہ جمعہ دیا تھا) درس کا موضوع توحید اور رد شرک تھا۔ جس کے بعد میں نے آپ سے ملاقات کی اور اس بات پر اظہار مسرت کیا کہ بہت عمدہ پیرایہ میں آپ نے وحدانیت پر روشنی ڈالی ہے مگر ہمیں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ شرک کیا ہے؟ فرمایا خدا کی ذاتی اور مخصوص صفات کو کسی بندہ سے مخصوص کرنا شرک کہلاتا ہے۔ مثلاً خالق، محی الاموات، عالم غیب، آلآن کما کان، حی و قیوم وغیرہ ذات باری سے ہی مختص ہیں۔ اس لیے کسی ولی کی طرف بھی ان کو منسوب کرنا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ اُن کی زبان سے یہ کلمہ حق جاری ہونے پر میں نے انہیں بتایا کہ آپ حضرات یہ سب صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یقین کرتے ہیں۔ جھٹ بولے

کہ یہ تو اُن کے معجزات تھے۔ اس سے شرک لازم نہیں آسکتا۔ خاکسار نے اس توجیہ پر انا اللہ پڑھی اور درد بھرے الفاظ میں بتایا کہ بالکل یہی دلیل پادری صاحبان یسوع مسیح کی خدائی کی دے کر لاکھوں مسلمانوں کو مرتد کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا معجزہ کے طور پر اپنی چاروں مخصوص صفات کا تمام انبیاء میں سے صرف یسوع مسیح کو عطا کرنا اور مسلمانوں کے نبی کو بھی اس سے محروم رکھنا الوہیت مسیح کا فیصلہ کن ثبوت ہے۔ آہ ع

ہمہ عیسائیاں را از مقال خود مدد دادند

امریکی کالج کے پروفیسر (HISTORY):

عہد خلافت ثالثہ کے ایک جلسہ سالانہ کے موقع پر نیشنل امیر امریکہ مکرم و محترم مظفر احمد صاحب اپنے ساتھ ایک امریکن پروفیسر بھی لائے جو تاریخ کے سکالر تھے۔ شعبہ تاریخ میں تشریف آوری پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ آپ کی ملاقات سے مجھے خاص طور پر اس لیے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ خاکسار کی زندگی بھی علم تاریخ ہی کی خدمت اور اشاعت کے لیے وقف ہے۔ اس تمہید کے بعد موازنہ بائبل اور قرآن پر تبادلہ خیالات شروع ہوا۔ میں نے اس ضمن میں دو تاریخی حقائق پیش کیے۔

اول یہ کہ بائبل کی رو سے پہلا انسان آدم تھا جو پانچ ہزار برس قبل پیدا ہوا مگر قرآنی نظریہ ہے کہ آدم پہلے انسان نہیں بلکہ پہلے نبی ہیں اور انسان مدتوں قبل معرض وجود میں آچکے تھے مگر دماغی اور ذہنی صلاحیتوں سے یکسر محروم اور گویا لاشیٰ محض تھے۔ (سورۃ الدھر: ۲) ایک مسلمان صوفی حضرت ابن عربی کا کشف ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ لاکھوں آدم گزرے ہیں اور آثارِ قدیمہ نے قرآن مجید اور اس کشف کی تصدیق کر دی ہے اور یورپ اور امریکہ کے عجائب گھر بھی اس پر شاہد ناطق ہیں۔

دوم انا جیل اربعہ نے بانی عیسائیت کا نام یسوع لکھا ہے مگر قرآن مجید نے ہر مقام پر آپ کو مسیح کہا ہے جس کے قدیم عربی لغات کے مطابق یہ معنی ہیں (الف) سیر و سیاحت کرنے والا (ب) شفا دینے والا (ج) چٹے پاؤں والا

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید تحقیقات سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تینوں خصوصیات بالبداہت ثابت ہو چکی ہیں۔ اس تقابلی مطالعہ کے بعد ہر مؤرخ (HISTORIAN) باسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے انجیل پر اعتقاد رکھنا چاہیے یا قرآن مجید جیسی کو الہامی کتاب پر ایمان لانا چاہئے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے ایک کالج فیلو

حضرت مولانا عبدالمالک صاحب ناظر اصلاح و ارشاد اور راقم الحروف ایک بار ظہر سے قبل پیارے آقا سیدی حضرت امیر المومنین خلیفہ ثالثؒ کے قدموں میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ لاہور سے ایک معزز دوست آگئے جن کا حضور نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور بتایا کہ ہم دونوں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ حضور نے اُن سے باہمی دلچسپی کے بعض معاملات پر دلچسپ گفتگو فرمائی اور آخر میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ذاتی اور نہایت معزز مہمان ہیں۔ انہیں میری طرف سے کھانا پیش کرنے کے بعد ربوہ کے اڈہ پر الوداع کہیں۔

حسب ارشاد دارالضیافت میں ان کی خدمت میں ظہرانہ پیش کیا گیا۔ ہمارے معزز مہمان نے کھانا شروع کرتے ہی بتایا کہ اُن کا تعلق فرقہ جعفریہ سے ہے۔ ہم لوگ منصب امامت کونبوت سے افضل گردانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت مولانا عبدالمالک خان صاحب نے مجھے جواب کا ارشاد فرمایا۔ عاجز نے گزارش کی کہ ہمارے مذہب کی بنیاد تو قرآن مجید ہے۔ آپ کتاب اللہ سے اپنے اس موقف کی تائید میں صرف ایک آیت سنا دیجئے ہم اس پر بے چون و چرا ایمان لے آئیں گے۔ اس پر انہوں نے یہ آیت پڑھی:

”إِذَا بَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهَنَّ قَالَ إِنَّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

إِمَامًا (البقرة: ۱۲۵)

اُن کا استدلال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے جبکہ حضرت ابراہیمؑ نبی تھے امتحان لیا جس میں کامیابی کے بعد انہیں سنا امامت عطا ہوئی۔ ثابت ہوا امام نبی سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے محترم و معزز دوست کا بہت شکر یہ ادا کیا کہ انہوں نے کلام اللہ سے ایک ایسی معرکہ آراء آیت کا انتخاب فرمایا ہے جس سے مسلمانوں کے باقی فرقوں پر کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے

جعفری تحریک کی پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانچ نکات معرفت بیان ہوئے ہیں:

1- امامت یا جاگیر یا ورثہ میں نہیں مل سکتی۔

2- امامت کے لیے خدا کے آسمانی کالج میں امتحان دینا پڑتا ہے۔

3- کمرہ امتحان میں صرف نبی بیٹھ سکتا ہے۔

4- امیدوار کو اللہ جل شانہ کے پرچہ کے تمام سوالات میں سو فیصدی نمبر لینے ضروری ہیں۔

5- امتحان میں پاس ہوتے ہی کوئی نبی از خود امام نہیں بن سکتا بلکہ بذریعہ الہام اسے

مقام امامت سے سرفراز فرماتا ہے۔

یہ پانچوں نکات بیان ہو چکے تو میں نے ان کی خدمت میں مندرجہ ذیل معروضات پیش کیں:

اول: آپ حضرات کے نزدیک جب امام نبی سے افضل ہوتے ہیں اور آپ کے عقیدہ

میں بارہ امام ظہور فرما ہو چکے ہیں تو جماعت احمدیہ کے خلاف ”ختم نبوت“ کی نام نہاد تحریکوں میں

آپ کا زور و شور سے حصہ لینا زیب نہیں دیتا۔

دوم: قرآن کی اس آیت نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف وہی شخص امام بن سکتا ہے جو

پہلے نبوت پر فائز ہو۔ میری تحقیق کے مطابق آئمہ اہل بیت میں سے کسی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تو وہ

قرآنی اصطلاح کے مطابق امام کیسے قرار پاسکتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دعا سکھلائی ہے کہ

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان: ۷۵) ہمیں متقیوں کے امام بنا دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان

مومنوں میں خانوادہ نبوت کے سب بزرگ بلاشبہ متقیوں کے امام تھے۔ اصطلاحی معنوں میں ہرگز نہیں۔

سوم: ایک فکر انگیز پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی رو سے بذریعہ الہام امامت کی شان عطا

ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں جو آئمہ اثنا عشر میں سے کسی کے متعلق یہ ثابت کر سکے کہ انہیں الہامی طور پر امام

قرار دیا گیا ہو۔

بجائے اس کے کہ یہ معزز دوست کوئی جواب عنایت فرماتے انہوں نے جلدی جلدی کھانا

ختم کیا اور جانے کی رخصت چاہی۔ اور میں نے انہیں ربوہ کے اڈہ تک پہنچ کر رخصت کی سعادت

حاصل کی۔ بعد میں حضرت مولانا نے مجھے بتایا کہ تم حضور کے کلاس فیلو کو الوداع کہنے چلے گئے تھے مگر میں سیدھا قصر خلافت میں پہنچا اور حضور کی خدمت میں اس نشست کی پوری تفصیل عرض کی تو حضور انور بہت محظوظ ہوئے۔ خود مجھے بھی بہت لطف آیا۔ حالانکہ میں کئی سال تک شیعیت کے مرکز لکھنؤ میں مبلغ رہا ہوں اور کئی مناظرے بھی کئے ہیں۔

رئیس اعظم شارجه (متحدہ عرب امارات)

”متحدہ عرب امارات“ دسمبر ۱۹۷۱ء میں قائم ہوئی۔ یہ وفاقی حکومت ابو ظہبی، دبئی، شارجه، عجمان، ام القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ جیسی سات چھوٹی ریاستوں پر مشتمل ہے۔ ۱۹۸۸ء میں خاکسار تلونڈی موسیٰ کیس میں دیگر ۸ مخلص احمدیوں کے ساتھ سنٹرل جیل گوجرانوالہ سے ضمانت پر رہا ہوا تو پیارے حضور سیدی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع نور اللہ مرقدہ کی خصوصی ہدایت پر میں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔

چونکہ پاکستان سے کوئی جماعتی لٹریچر ساتھ لے جانا ممکن نہ تھا اس لیے میں نے ابو ظہبی کی سرکاری لائبریری سے احمدی علم کلام کے تائید میں بزرگان سلف کی عربی کتب کے تائیدی حوالوں کا عکس حاصل کیا اور جس کی سات آٹھ کاپیاں امیر ابو ظہبی جناب منیر احمد صاحب نے کرا دیں اور ان سب کو سات فائلوں کی صورت محفوظ کیا جس کے بعد امارات کی جملہ ریاستوں میں ان پر تعارفی لیکچر دیئے اور ایک ایک کاپی بغرض ریکارڈ و استفادہ ہر ریاست کے امیر جماعت کو دیں۔ اس طرح ان ریاستوں کے احمدیوں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھوں میں دعوت الی اللہ کا ایک نیا علمی طریق مل گیا ہے اور وہ اپنے عرب بھائیوں کو کسی تمہید کے بغیر صرف فونو کاپیوں کے ذریعہ بآسانی احمدیت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔

ان دنوں شارجه کے امیر محترم مرزا بشیر بیگ صاحب مرحوم (برادر نسبتی مولانا عبدالقادر شاہد سابق مجاہد افریقہ حال کینیڈا) تھے۔ محترم مرزا صاحب کا حلقہ تعارف بہت وسیع تھا۔ خصوصاً مقامی رؤساء سے ان کے گہرے روابط و مراسم تھے۔ آپ نے خاکسار کی ملاقات شارجه کے ایک رئیس اعظم (غالباً السید لوطا) سے کرانے کا انتظام فرمایا اور خاص اس غرض سے عربی لباس تیار کرایا جو

میں زیب تن کئے ان کی خدمت میں پہنچا۔ دوران گفتگو میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میرا تعلق اُسی جماعت سے ہے جس سے یو این او میں فلسطین کا مسئلہ پیش کرنے والے بطل اسلام السید چودھری محمد ظفر اللہ خاں صاحب کو وابستگی کا شرف حاصل ہے۔ بعد ازاں میں نے آنحضرت ﷺ کی شان میں حضرت مسیح موعود کے عربی قصائد کے اشعار سنائے اور پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کے اشاعتی کارناموں کا مختصر تذکرہ کیا۔ ملاقات مختصر تھی مگر السید لوطا خاص طور پر حضرت مسیح موعود کے عربی کلام سے غایت درجہ متاثر ہوئے۔ محل سے باہر نکلتے ہی امیر جماعت دوئی فرمانے لگے واللہ اس ملاقات کے وقت اگر کوئی اور شخص بھی موجود ہوتا تو وہ پکارا اٹھتا کہ تم عربی اور وہ عجمی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میری تو اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی زندہ آفتاب کے مقابل ٹٹماتے ہوئے چراغ کی ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ سحر طرازی کے یہ علمی کرشمے آنحضرت ﷺ کے عاشق صادق مسیح موعود کے چشمہ فیضان کی بدولت ہیں۔ وگرنہ من آنم کہ من دامن۔ واللہ علی ما قول شہید۔

ڈپٹی کمشنر صاحب ڈیرہ اسماعیل خان (سرحد):

ڈیرہ اسماعیل خاں کی مخلص جماعت نے مرکز میں اطلاع دی کہ یہاں جلسہ سیرۃ النبی کا انتظام کیا گیا ہے کوئی مرہبی بھجوا جائے۔ نظارت اصلاح و ارشاد کی طرف سے خاکسار بروقت پہنچ گیا۔ لیکن پہنچتے ہی یہ معلوم ہوا کہ جناب ڈپٹی کمشنر ضلع نے فرقہ پرست ملاؤں کے شدید دباؤ پر اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ میں نے احباب جماعت سے گزارش کی کہ ہمیں جلسہ کے متبادل کے طور پر دن میں سارا دن درود شریف پڑھنے اور رات تہجد ادا کرنے میں گزارنا چاہیے۔ اسی روز میری درخواست پر احباب جماعت نے آنحضرت ﷺ کی سوانح سے متعلق انگریزی لٹریچر ایک خوبصورت پیکٹ کی صورت میں تیار کیا جسے لے کر میں ایک جماعتی وفد کے ساتھ جناب ڈی سی صاحب کے دفتر میں پہنچا۔ اپنا وزنگ کارڈ اندر بھجوا دیا۔ چند منٹوں کے بعد ہی انہوں نے (جو شریف النفس انسان تھے) ممبران وفد کو بلوایا۔ اور نہایت اعزاز کے ساتھ کرسیوں پر بٹھایا۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر ان کی خدمت میں جماعتی لٹریچر تحفہ پیش کرتے ہوئے صرف یہ کہنا کہ میں ربوہ سے یہاں جلسہ سیرت النبی میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ واپسی سے قبل میرے دل میں آپ سے ملاقات کی شدید تمنا

پیدا ہوئی۔ اس لیے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آنحضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سوانح و سیرت پر جماعت احمدیہ کا لٹریچر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ع

گر قبول افتد زہے عز و شرف

یہ کہہ کر ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے کی اجازت چاہی لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ جماعت کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ لوگ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا اُن کا حقیقی مقام ہے ”غلام احمد“ اور یہی آپ کا نام بھی ہے۔ جس کی مزید وضاحت آپ کے شعری کلام میں یوں ملتی ہے:

جان و دلم فدائے جمال محمد است
 خامک نثار کوچہ آل محمد است
 ایں چشمہ رواں کہ مخلق خدا دہم
 یک قطرہ ز بحر کمال محمد است

جناب ڈی سی صاحب افغان تھے اور فارسی ان کی مادری زبان تھی۔ اس لیے انہوں نے دونوں شعر کمال عقیدت سے سنے اور پھر مدحت شہ لولاک کے تصور میں ایسے از خود رفتہ ہو گئے کہ پھر کسی اور سوال کی نوبت نہ آئی۔ خاموشی کے وقفہ کو میں نے بہت غنیمت سمجھا اور اپنے الوداعی الفاظ میں اُن کا شکر یہ ادا کیا اور بتلایا کہ ہماری نگاہ میں آپ قابل احترام ہستی ہیں کیونکہ آپ اُس مملکتِ خداداد کے معزز فرد ہیں جس کے قیام بلکہ نام تک کی خبر بذریعہ الہام بانی جماعت احمدیہ کو اپریل ۱۹۰۲ء میں دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ نے قیام پاکستان سے ۴۵ سال قبل اپنا یہ الہام شائع کیا۔ ”عیسائی لوگ ایذا رسانی کے لیے مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا اور وہ دن آزمائش کے دن ہوں گے اور کہہ کہ خدا یا پاک زمین میں مجھے جگہ دے۔ یہ ایک روحانی طور کی ہجرت ہے۔“ (دافع البلاغ اول صفحہ ۲۱)

کینیڈا کی ایک سابق میسر خاتون:

ایک عرصہ کی بات ہے کہ کینیڈا کی ایک سابق میسر خاتون ہندوستان خصوصاً مدراس اور قادیان کا دورہ کرنے کے بعد وارد رربوہ ہوئیں۔ ان کے پاس ایک امیر جماعت کا مراسلہ تھا جس میں لکھا تھا کہ

یہ کیتھولک خاتون جماعت احمدیہ کی مداح ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ انہیں مؤرخ احمدیت سے گفتگو کا ضرور موقع دیا جائے۔ چنانچہ جناب نواب منصور احمد خاں صاحب وکیل التبشیر اور سابق مبلغ سویڈن جناب سمیع اللہ زاہد صاحب اس معزز خاتون کو لے کر خاکسار کے غریب خانہ پر تشریف لائے۔

محترمہ نے بتایا کہ وہ خاص طور پر مدراس میں تھوما حواری کے مزار کی زیارت کے لیے گئی تھیں۔ میں نے ان کا مناسب الفاظ میں خیر مقدم (WELCOME) کیا اور مسکراتے ہوئے تذکرہ کیا کہ ہم احمدی ڈبل مسیحی ہیں کیونکہ امت موسوی کے مسیح پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور امت محمدیہ کے مسیح موعود پر بھی۔ پھر کہا کہ میں بھی گزشتہ سال مدراس گیا تھا اور مزار تھوما پر حاضری کی توفیق پائی۔ اس بات نے اُن کے دل کو میری بات دلچسپی اور غور سے سننے کی طرف مائل کر دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی خدمت میں یہ تاریخی حقیقت پیش کرنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنا مشن یہ بیان فرمایا تھا:

”میں بنی اسرائیل کی کھوئی بھینٹوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں

بھیجا گیا۔“ (متی باب ۱۵ آیت ۲۴)

چونکہ بنی اسرائیل کے قبائل افغانستان اور کشمیر کے علاوہ مدراس میں بھی موجود تھے اس لئے حضرت یسوع مسیح نے تھوما حواری کو ان میں اپنی منادی کے لیے بھیجا یا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ نے انہیں صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا تو وہ افغانستان اور کشمیر میں آباد ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو چھوڑ کر اور اپنے اصل مشن کو فراموش کر کے چرخ چہارم پر کیوں تشریف لے گئے۔ خصوصاً جبکہ ان میں زبردست قوت پرواز تھی اور وہ آسانی ان سب مشرقی ممالک میں پہنچ سکتے تھے اور برق رفتاری سے سب تک اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ تصور فرض کر لیا جائے تو یہ حضرت سیدنا مسیح جیسے اولوالعزم پیغمبر سے بڑی زیادتی ہوگی اور اس سے لازم آتا ہے کہ آپ (پروٹسٹنٹ اور کیتھولک مذہبی سکارلز کے عقیدہ کے مطابق) خدا کے داہنے ہاتھ پر نہیں بیٹھے بلکہ معاذ اللہ اپنی اس خطرناک حکم عدولی کی پاداش میں آسمانی عدالت میں آپ کا کورٹ مارشل ہو رہا ہوگا۔

یہ کینیڈین خاتون یہ بات سن کر گہرے غور و فکر میں ڈوب گئیں اور چند منٹ کی خاموشی کے بعد خود بخود اٹھ کھڑی ہوئیں اور گفتگو کا سلسلہ بھی خود بخود اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔

ایک طالب حق ڈینش سیاح:

ربوہ میں خلافت رابعہ کے دوران ایک متلاشی حق ڈینش سیاح اور ان کی لیڈی تحریک جدید کے قدیم گیٹ ہاؤس میں فروکش تھیں۔ وکالت تبشیر کے ایک پیغام پر میں ان کی ملاقات کے لیے گیا۔ ترجمانی کے بہترین فرائض مرزا نصیر احمد صاحب شاہد مبلغ انگلستان نے انجام دیئے۔ ابتدا میں تو انہوں نے اسلام میں عورت کے مقام (STATUS) کی بابت معلومات چاہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیں۔ ازاں بعد دونوں میاں بیوی پردہ کی مخالفت میں ڈٹ گئے۔ جس پر میں نے بائبل کی روشنی میں بتایا کہ پردہ ابراہیمی گھر آنے میں قدیم سے رائج تھا۔ اور اسلام کا احسان ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم کے دین حنیف کو پھر سے زندہ کیا جو عفت و عصمت اور پارسائی کا زبردست حفاظتی قلعہ ہے۔ میں نے برسبیل تذکرہ قرآن و انجیل کا موازنہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ انجیل (متی باب ۵) میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بُری نظر سے کسی کو دیکھے تو اسے خود ہی ناپاک آنکھ پھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے مقابل قرآن مجید نے ایسی خوفناک سزا کو جائز نہیں رکھا بلکہ نہایت خوبصورت اور حکیمانہ طریق سے مرد و عورت دونوں پر غصہ بصر کا پردہ لازم کر دیا ہے اور صنفِ نازک کو یہ پُر حکمت ہدایت فرمائی ہے وہ چہرے کو ڈھانپ کر رکھے تاکہ کوئی کمینہ فطرت اس کی عصمت پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔

اس مرحلہ پر ڈینش سیاح اور ان کی لیڈی نے یہ دریافت کیا کہ کیا مسلم عورت سے کبھی پردہ کی پابندی اٹھائی بھی جاتی ہے؟ میں نے انہیں بتلایا کہ حج بیت اللہ کے دوران جب ہر ایک خدا کے عشق میں سرشار ہو کر اُس کے ذکر میں محو و گداز ہوتا ہے خواتین کو بھی نقاب اوڑھنے کی اجازت نہیں اور دراصل اسلام تو ہر فرد کو سلوک کی اس آخری منزل تک پہنچانا چاہتا ہے کہ ساری دنیا میدانِ عرفات کی طرح تقویٰ اور عرفانِ الہی کا مرکز بن جائے اور اس معاملہ میں اسلام نے مرد و عورت میں کوئی تمیز نہیں روا رکھی۔ بلکہ دونوں میں مسابقت کی سپرٹ پیدا کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے حوا کی بیٹیوں کا چراغ سے خانہ بننا ہرگز گوارا نہیں اور نہ قابل برداشت ہے۔ کیونکہ وہ اسے شمع خانہ یقین کر کے عالمگیر عالمی نظام کو اخلاق و روحانیت کے زیور سے مرصع کرنے کے لیے اٹھا ہے اور یہ ہمارے نبی اور نبیوں کے شہنشاہ محمد مصطفیٰ ﷺ کا طبقہ نسواں پر عظیم الشان احسان ہے۔

بھیج درود اُس محسن پر تُو دن میں سو سو بار

پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار

چیف ایڈیٹر ہندسماچار گروپ آف نیوز پیپر جالندھر:

۲۰۰۵ء کے جلسہ سالانہ قادیان دارالامان کی بے شمار روحانی، تربیتی اور علمی یادیں میرے دل پر نقش ہیں مگر تبلیغی یادگار صرف ایک ہے اور وہ ہے جالندھر کے روزنامہ ”ہندسماچار“ کے مشہور چیف ایڈیٹر جناب پدم شری وجے کمار چوڑا صاحب سے مع ان کے شاف کے ملاقات۔ ”ہندسماچار“ ۱۹۴۷ء سے جاری ہے اور چوڑا خاندان کے مورث اعلیٰ ہوشناک رائے تھے جن کی پیدائش میرے وطن ضلع حافظ آباد میں ہوئی۔ سرلیپل ایچ گریفن اور کرنل میسی نے تذکرہ رؤسائے پنجاب (PUNJAB CHIEFS) کی دوسری جلد میں اس خاندان کے مشاہیر کا مفصل ذکر کیا ہے۔ مثلاً جناب رام چند چوڑا جنہوں نے اچھرہ اور نکانہ صاحب میں پبلک کے لیے بڑے بڑے تالاب بنوائے۔ لاہور میں غریبوں کے لیے دو خانہ جاری کیا، امرتسر میں سنسکرت کاسکول کھولا اور بنارس سداورت (مستقل خیراتی لنگر) قائم کیا۔

جماعت احمدیہ کے ساتھ جناب پدم شری وجے کمار چوڑا کے گہرے روابط و مراسم عرصہ سے قائم ہیں اور ان کا اخبار تو جلسہ سالانہ قادیان کے انعقاد پر اُس کی روح پرور اور بالتصویر خبروں کا حسین مرقع بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی کے ارشاد مبارک پر خاکسار نے ۱۹۹۲ء کے جلسہ سالانہ پر تحریک وقف نو پر لیکچر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ روزنامہ ”ہندسماچار“ نے اس موقع پر ”حوالوں کے بادشاہ کی آمد“ کے جلی عنوان سے ایک خبر زیب اشاعت کی تھی۔ اب میں جلسہ سالانہ ۲۰۰۵ء کی تاریخی ملاقات اور انٹرویو کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ میرا قیام ان مبارک ایام میں دارالضیافت حضرت مسیح موعود کے ایک کمرہ میں تھا جو گیٹ ہاؤس سے متصل تھا۔ یہ تقریب شری وجے کمار صاحب کی رہن منت تھی۔ آپ ہی نے اس کے انعقاد کے لیے خصوصی پیغام دیا اور پھر چند منٹوں کے بعد اپنے شاف کے جلو میں تشریف لے آئے۔

ادارہ اخبار ”سماچار“ کے ایک سکا لرنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ میری ریسرچ ہے کہ منو سے مراد حضرت نوح ہیں۔ میں نے ان کی محنت و کاوش کی داد دی کہ ہندو مسلم اتحاد کی نئی راہ کھلی گی مگر ساتھ ہی عرض کیا کہ سلسلہ احمدیہ کے ایک بزرگ سکا لر نعمت اللہ خاں صاحب گوہر بی اے

نے قادیان سے تقسیم ہند سے قبل ”تحفہ ہندو یورپ“ ایک محققانہ تالیف شائع کی جس میں ثابت کیا کہ برہاجی دراصل ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور آپ کے صحیفہ کا نام و داد تھا جس کے گیت قدیم آریہ قوم میں وید نام سے رائج ہوئے۔ یہ معرکہ آرا کتاب وزیر ہند امرتسر پریس میں چھپی اور دسمبر ۱۹۲۸ء میں قادیان دارالامان سے شائع ہوئی۔

سلسلہ گفتگو آگے بڑھا تو میں نے بتایا کہ ہم سری کرشن کو خدا کا اوتار اور رشی مانتے ہیں اور اُن کی طرف بعض ہتک آمیز روایات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک گوپیوں سے مراد اُن کے معتقد و مرید ہیں اور قدیم تصاویر میں مکھن چرانے کا واقعہ محض استعارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک کے اعلیٰ دماغوں تک اپنا پیغام پہنچانے اور انہیں اپنا گرویدہ اور فریفتہ کرنے میں کامیابی ہوئی۔ CREAM کا انگریزی محاورہ بھی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح ہندو مہا پرشوں نے جو آپ کو بانسری بجاتے ہوئے دکھایا ہے وہ ایک شاندار حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ جس طرح بانسری کی آواز دراصل اُسے بجانے والے کی آواز ہوتی ہے اسی طرح بھگوان سری کرشن جی مہاراج کا اپدیش دراصل پر ماتما کا اپدیش تھا۔ زبان اُن کی تھی مگر بلا والی شور کا تھا۔

ایک موقع پر میں نے بحیثیت مورخ یہ بھی واضح کیا کہ ہماری جماعت کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعد آزادی کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ اُن کی نگاہ صرف ہندوستان تک محدود نہ تھی بلکہ ساری دنیا پر تھی اور آپ ہر ملک، ہر قوم اور ہر انسان کو شیطان کی زنجیروں سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ آزادی ہند کے حق میں آواز بلند کی۔ مگر نہایت سختی، قانون شکنی اور بغاوت کے خلاف احتجاج کیا اور ہمیشہ اہل ملک کو حصول آزادی کے لیے احترام قانون اور پُر امن ذرائع استعمال کرنے کی تاکید فرمائی اور خاص طور پر ایک خطبہ میں یہ کھلا انتباہ کیا کہ انگریز سمندر پار سے آئے ہیں۔ جنگ نے اُن کی معاشیات کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ آخر انہیں جلد یا بدیر جانا ہی پڑے گا لیکن اگر ہم نے ان کے خلاف ناجائز اور امن شکن ذرائع استعمال کر کے کامیابی حاصل کر لی تو ملکی آزادی کے بعد عوام ضرور یہی جارحانہ ہتھیار اُن کے خلاف استعمال کریں گے۔ جناب چیف ایڈیٹر صاحب اور اُن کے معزز رفقاء نے اس بات کی سو فیصدی تائید کی کہ واقعی اب پورے دلش میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔

خاکسار نے انٹرویو کے دوران حضرت مصلح موعود کا ملکی آزادی سے متعلق پالیسی کی طرف محض اشارہ کیا تھا۔ اب جبکہ میں یہ روداد لکھ رہا ہوں حضور کے ایک اہم بیان کے الفاظ ہدیہ قارئین کرتا ہوں۔ ۲ نومبر ۱۹۳۵ء کی مجلس عرفان کے دوران فرمایا ”ہمارا کانگریس سے اختلاف آزادی کے حصول میں نہ تھا نہ ہے بلکہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں تھا اور ہے۔“ (الفضل ۳ نومبر ۱۹۳۵ء صفحہ ۲)

گفتگو کا آخری محور مسئلہ ”امن عالم“ تھا جو کئی سال سے تمام ممالک عالم کے لیے تشویش و اضطراب کا موجب بن چکا ہے۔ خاکسار نے اس بارے میں جو کچھ عرض کیا اس کا ملخص یہ تھا کہ آج پوری دنیا تباہی کے کنارے تک آن پہنچی ہے۔ ایسے نازک ترین وقت میں عالمی امن، شانتی اور پریم کا قیام تین اصولوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔

پہلا اصول یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت ایسے لوگوں سے بھر جائے جو احترام قانون کو اپنا مذہبی فریضہ یقین کرتے ہوں۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ ان لوگوں کا ابدی ماٹو ہو ”محبت سب کے لیے نفرت کسی سے

نہیں۔“

تیسرا اصول یہ ہے کہ احترام قانون کو مذہب کا جزو اعظم سمجھنے والی ان اقوام و افراد کا ایک واجب الاطاعت امام اور مذہبی لیڈر ہو جو آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہمیشہ اپنے معتقدین کی ہر مرحلہ پر کڑی نظر رکھے ہوئے رہنمائی کرتا رہے۔ قرآن (سورہ یوسف) سے واضح ہے کہ اگر فرعون جیسا ظالم و سفاک بادشاہ بھی حکمران ہو اور یوسف جیسا اولوالعزم نبی (یعنی رشی یا اوتار بھی) اُس کی رعایا ہو تو اسے بھی قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ دوران گفتگو میں نے آنحضرت ﷺ کی مکی زندگی کے اس تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ ۱۰ نبوی میں حضرت ابوطالبؓ اور حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کی وفات کے بعد آپ کے مخالفین نے آپ کو نہایت بے باکی اور بے رحمی سے جوڑ جھنا کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جس پر آپ محض تبلیغ اسلام کے لیے مکہ چھوڑ کر شہر طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں عبدیاللیل، مسعود اور حبیب تین رئیس اعظم تھے۔ سب سے پہلے حضور انہی کے پاس خدا کا پیغام دینے کے لیے پہنچے مگر ان بدقماشوں نے آپ کی دعوت پر کھلا مذاق اڑایا۔ ایک نے یہ گستاخانہ

بات کہی کہ اگر تجھ کو واقعی خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ دوسرے نے یہ شرمناک پھبتی کسی کہ کیا خدا کو تیرے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا۔

کوئی بولا معاذ اللہ وہ بھی ہے خدا کوئی
نبی جس کو کہیں ملتا نہیں تیرے سوا کوئی

تیسرے بد بخت نے متکبرانہ انداز میں آپ کی دعوت رد کرنے کا یہ جواز پیش کیا کہ میں بہر حال تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ تو اگر سچا ہے تو میری گفتگو بے ادبی ہے اور اگر کاذب ہے تو قابل التفات ہی نہیں۔ ان برگشتہ نصیبوں نے اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے شہر کے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو اپنی جھولیاں پتھروں سے بھر کر دروہہ قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ سارا جسم لہولہاں ہو گیا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ وہ مقدس خون تھا جس کا ایک ایک قطرہ پوری کائنات سے افضل تھا۔ جب آپ زخموں سے پور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ غنڈے آپ کا بازو تھام کر کھڑا کر دیتے اور جب آپ چلنے لگتے تو دوبارہ پتھروں کی بارش شروع کر دیتے اور ساتھ ساتھ گالیاں بکتے اور تالیاں بجاتے چلے جاتے۔ (زرقاتی جلد ۱ صفحہ ۵۱۶) آخر آپ کو ایک باغ میں پناہ لینا پڑی۔ اس وقت خدا کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ اگر اجازت دیں تو پورے طائف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے مگر رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا:

دعائے قہر کیوں مانگوں یہ ناہم ، غافل ہیں
بشر ہیں ، بے خبر ، نادان ہیں گمراہ منزل ہیں
منور کردے اپنے نور سے ان سب کے سینوں کو
لگا دے ساحل ایمان پر ان کے سفینوں کو
خدایا رحم کر طائف کے گم گشتہ مکینوں پر
بچھا دے رحمتوں کے پھول پتھریلی زمینوں پر
(مرزا ظہیر الدین طالب دہلوی)

آخر آنحضرتؐ دوبارہ مکہ میں آباد ہونے کے لیے غارِ حرا کے قریب پہنچے تو قبائلی دستور کے مطابق آپ نے زید بن حارثہ کو رؤسائے مکہ کے پاس بھیجا کہ کیا وہ مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ سبھی نے صاف انکار کر دیا البتہ مکہ کے ایک شریف رئیس اعظم مطعم بن عدی نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے انہی کے پاس رات گزاری۔ صبح ہوئی تو مطعم بن عدی مسلح ہو کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور اپنے سب بیٹوں کو بھی ہتھیار بند کیا جو آنحضرتؐ کو تلوار کے سایہ میں لے کر حدودِ حرم شریف کے قریب لائے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے بلند آواز سے اعلان عام کیا کہ اے گروہ قریش میں نے محمد (ﷺ) کو پناہ دے دی ہے۔ اب انہیں کوئی تکلیف نہ دینا۔ یہ گویا داخلہ مکہ کا ”ویزا“ تھا جس کے بعد آنحضرتؐ نے حرم میں قدم مبارک رکھا۔ نماز ادا کی اور مطعم اور ان کے بیٹے آپ کو تلواروں کے سائے میں گھر تک چھوڑنے آئے۔ (مخلص از مواہب لدنیہ، طبقات ابن سعد، طبری)

اس بیان یا انٹرویو کے بعد جناب چیف ایڈیٹر صاحب ”ہند سماچار“ اور ان کے سب رفقا نے خاکسار کی گزارشات پر دلی شکر یہ ادا فرمایا اور اپنے خراج تحسین کا عملی ثبوت دیتے ہوئے پانچ سو روپے بھی ناچیز کو دیئے جو میں نے صدر انجمن احمدیہ قادیان کے خزانہ میں داخل کرادیئے اور ازاں بعد فی الفور امام ہمام حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس ملاقات کی روداد ارسال کر دی کیونکہ سب کامیابیاں خلیفہ راشد کی خصوصی توجہات اور تاثیراتِ قدسیہ کی برکت سے ہوتی ہیں۔

کلمہ آخر:

راقم الحروف ایوانِ خلافت کا ایک فقیر بے نوا ہے۔ میں اپنے عمر بھر کے وسیع تجربات کی بنا پر رپ ذوالجلال کی قسم کھا کر علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ آج ہر نوع کے فیضانِ محمدی کے سرچشمہ تک رسائی نظامِ خلافت کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے اور خدا کی پاک جماعت کے ہر فرد یا ادارہ پر تمام برکات فرشتوں کی اُن آسمانی افواج کے ذریعہ نازل ہو رہی ہیں جن کو ربِّ محمد (ﷺ) نے اپنے محبوب خلیفہ کو تاجِ خلافت پہناتے ہی تابع فرمان کر دیا ہے اور ہر مخلص احمدی اس کے نائب سے حد درجہ وفا کرتا ہے۔ اسی نسبت سے خدائی دستے متعین کر دیئے گئے ہیں جو اس کے ہر دینی کام میں

اس کے غیبی معاون بن جاتے ہیں۔ اسی لیے خلیفہ موعود سیدنا حضرت محمود المصلح الموعود فرماتے ہیں:-

”وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے اتنا بھی کام نہیں کر سکتا جتنا بکری کا بکروٹا کر سکتا ہے۔“

(الفضل ۲۰ نومبر ۱۹۳۶ء صفحہ ۷)

نیز ارشاد فرمایا:

”خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد۔ جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔“

(الفضل ۲ مارچ ۱۹۳۶ء صفحہ ۳)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین